

بل آف ایکسچینج

(Bill of Exchange)

8

اشیاء کی خرید و فروخت نقد بھی ہو سکتی ہے اور ادھار بھی۔ جب اشیاء کی خرید یا فروخت نقد ہوتی ہے تو ادا یگی فوراً ہو جاتی ہے اس کے برکس اگر کوئی چیز ادھار خریدی یا فروخت کی جاتی ہے تو ادا یگی آئندہ کی کسی تاریخ تک کے لیے ملتوی کر دی جاتی ہے۔ اس صورت میں عام طور سے فرم مقررہ تاریخ پر رقم کی ادا یگی کے لیے فریق پر بھروسہ کرتی ہے لیکن کئی بار عدم ادا یگی یا ادا یگی میں تاخیر سے نہ چنے کے امکان سے دستاویز کا استعمال کیا جاتا ہے جس کے ذریعے خرید و فروخت کارکو یہ یقین دلاتا ہے کہ رقم کی ادا یگی طے کی گئی شرائط کے مطابق ہی کی جائے گی۔ ہندوستان میں اس ادھار کے دستاویز (Instrument of Credit) کا استعمال بہت قدیم وقت سے ہوتا ہے جو ہندی (Hundi) کے نام سے مشہور ہے۔ ہندیاں ہندوستانی زبانوں میں لکھی جاتی ہیں اور کئی اقسام کی ہوتی ہیں (دیکھیے بکس 1)۔

بکس 1 ہندیاں اور اس کی اقسام

ہمارے ملک میں کئی قسم کی ہندیاں استعمال کی جاتی ہیں آئیے ان میں سے جو سب سے زیادہ عام ہیں ان پر بحث کریں۔

شاہجوگ ہندی (Shahjog Hundi): یہ ہندی ایک تاجر دوسرے تاجر کے ذریعے ادا یگی کے لیے لکھتا ہے جس میں موخرالذکر تاجر سے رقم کی ادا یگی شاہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ شاہ بازار کے ایک معتبر اور ذمہ دار شخص کے طور پر جانا

سیکھنے کے مقاصد

- اس باب کے مطالعہ کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ
- بل آف ایکسچینج اور اقراری نوٹ (Promissory Note) کے معنی بیان کر سکیں؛
- بل آف ایکسچینج اور اقراری نوٹ میں فرق واضح کر سکیں؛
- بل آف ایکسچینج کے فوائد بیان کر سکیں؛
- بل سے متعلق لین دین کے جرئت میں اندرج کر سکیں؛
- بل آف ایکسچینج کے مسترد (Dishonour)، قبل از وقت ادائیگی (Retirement) اور بل کی تجدید (Renewal) سے متعلق لین دین کا اندرج کر سکیں؛
- بل قابل وصول (Bill Receivable) اور بل قابل ادا امدادی بل (Accommodation Bill) کے معنی اور استعمال کو بیان کر سکیں۔

جاتا ہے۔ ایک شاہی گوگ ہندی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہوتی ہوئی شاہ مک پہنچتی ہے جو ضروری معلومات کے بعد اسے اس کے منظور کنندہ کے پاس ادا یگی کے لیے پیش کرتا ہے۔

درشنی ہندی (Darshani Hundī): یہ ہندی دیکھتے ہی (At Sight) قابل ادا ہوتی ہے۔ یہ ہندی حامل کو وصول ہونے پر مناسب مدت میں ادا یگی کے لیے ضرور پیش کرنی ہوتی ہے۔ یہ ڈیمانڈ بل (Demand Bill) کے مشابہ ہوتی ہے۔

مدتی ہندی (Muddati Hundī): یہ مدتی یا معیاری ہندی ایک مخصوص مدت کے بعد قابل ادا ہوتی ہے۔ یہ ٹائم بل (Time Bill) کے مشابہ ہوتی ہے۔

اس کے علاوہ کئی اور طرح کی ہندیاں بھی ہوتی ہیں جیسے نام جوگ ہندی، دھنی جوگ ہندی، جوابی ہندی، ہوکامی ہندی، فرمان جوگ ہندی وغیرہ۔

آج کل ان ادھار کے دستاویزوں کو بل آف ایکچینج یا اقراری (Promissory Note) نوٹ کہا جاتا ہے۔ بل آف ایکچینج ایک طے شدہ تاریخ پر ایک مقررہ رقم کی ادا یگی کا ایک غیر مشروط حکم ہے۔ جبکہ اقراری نوٹ (Promissory Note) ایک مقررہ تاریخ پر ایک مقررہ رقم کی ادا یگی کا غیر مشروط وعدہ ہے۔ ہندوستان میں یہ دستاویزات ہندوستانی تحويل پذیر دستاویزی قانون (Indian Negotiable Instruments Act) 1881 کے تحت آتی ہیں۔

8.1 بل آف ایکچینج کے معنی (Meaning of Bill of Exchange)

تحویل پذیر دستاویزی قانون 1881 میں بل آف ایکچینج کی تعریف اس طرح ہے کہ، ایک غیر مشروط تحریری حکم نامہ جو ایک شخص دوسرے شخص کے نام لکھتا ہے اور لکھنے والا اس ہدایت کے ساتھ اپنے دستخط بھی کرتا ہے کہ جس شخص کو یہ حکم نامہ دیا جا رہا ہے وہ فلاں تاریخ کو اتنی رقم حامل حکم نامہ کو یا فلاں شخص کو یا پھر جس کے لیے فلاں شخص حکم کرے، ادا کر دے۔ اس تعریف سے آف ایکچینج کی مندرجہ ذیل خصوصیات ظاہر ہوتی ہیں۔

- بل آف ایکچینج تحریری ہوتا ہے۔
- اس میں رقم کی ادا یگی کا حکم ہوتا ہے۔
- اس میں رقم کی ادا یگی کا حکم غیر مشروط ہوتا ہے۔
- اس میں بل آف ایکچینج کے لکھنے والے کے دستخط ہوتے ہیں۔
- اس میں ادا یگی کی رقم مخصوص ہوتی ہے۔
- اس میں ادا یگی کی رقم کی تاریخ بھی مقرر ہوتی ہے۔
- بل آف ایکچینج ایک مخصوص شخص کو قابل ادا یگی ہوتا ہے۔

- بل آف ایکسچنچ میں درج شدہ رقم یا تو طلب پر یا ایک مقر رہ وقت کے خاتمے پر قابل ادا ہوتی ہے۔
- قانون کے مطابق اس بل پر ممبر کا ہونا ضروری ہے۔
- بل آف ایکسچنچ عام طور سے لین دار (Creditor) کے اپنے دین دار (Debtor) کے لیے لکھتا ہے۔ یہ دین دار یا اس کی جانب سے کسی اور شخص کے ذریعے منظور کیا جاتا ہے۔ جب تک یہ منظور نہ کیا گیا ہو جس ایک ڈرافٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر امت نے روہت کو 10,000 روپے کا مال تین ماہ کے لیے ادھار بیچا۔ مقر رہ تاریخ پر رقم کی ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے امت نے 10,000 روپے کا ایک بل آف ایکسچنچ تین ماہ کی مدد کا روہت پر لکھا۔ روہت کی منظوری سے پہلے یہ ڈرافٹ (Draft) کہلانے گا جب روہت اس پر لفظ ”منظور“ لکھ کر دستخط کرے گا اور منظوری کی اطلاع دے دے گا تبھی یہ بل آف ایکسچنچ کہلانے گا۔

8.1.1 بل آف ایکسچنچ کے فریق (Parties to a Bill of Exchange)

اس بل کے تین فریق ہوتے ہیں:

- 1 - مرتب (Drawer) بل کو بناتا ہے۔ فروخت کاریا لین دار جسے دین دار سے رقم وصول کرنی ہے، خریدار یا دین دار سے ادائیگی لینے کے لیے بل بناسکتا ہے۔ بل لکھنے کے بعد مرتب بل پر بطور بنا نے والے کے دستخط کرتا ہے۔
- 2 - مرتب الیہ (Drawee) وہ شخص ہوتا ہے جس پر بل بنایا یا لکھا گیا ہے مرتب الیہ سامان کا خریدار یا دین دار ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس پر بل لکھا جاتا ہے۔
- 3 - یابندہ (Payee) وہ شخص ہوتا ہے جس کو رقم وصول کرنی ہے۔ بل کا مرتب خود ہی یابندہ بھی ہو گا اگر وہ بل کو ادائیگی کی تاریخ تک اپنے پاس رکھتا ہے۔ یابندہ مندرجہ ذیل حالات میں بدل جاتا ہے۔
 - (a) اگر مرتب بل کو بینک سے بھانا لیتا ہے تو جس بینک سے بل بھانا یا گیا ہے وہ یابندہ ہو گا۔
 - (b) اگر مرتب نے بل کا بیچان (Endorsement of Bill) اپنے کسی لین دار کے حق میں کر دیا تو لین دار یابندہ بن جائے گا۔

عام طور پر مرتب اور یابندہ ایک ہی شخص ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر متنا نے جیوتی کو 10,000 روپے کا مال بیچا اور ایک بل اس رقم کا تین ماہ کی مدد کا لکھا۔ یہاں ممتاز بل کی مرتب ہے اور جیوتی ممتاز بل کو تین ماہ تک اپنے پاس رکھتی ہے اور ادائیگی کی تاریخ پر 10,000 روپے وصول کرتی ہے تو ممتاز یابندہ کہلانے لگے۔ اگر ممتاز بل کا بیچان اپنی لین دار روپی کو کردیتا ہے تو روپی یابندہ کہلانے لگے۔ اگر ممتاز بل کو بینک سے بھانا لیتی ہے تو بینکر (Banker) یابندہ کہلانے لیں گے۔ مندرجہ بالا میں ممتاز مرتب ہے اور جیوتی ممتاز الیہ چونکہ جیوتی نے بل کو منظور کیا ہے اس لیے جیوتی منظور کننده (Acceptor) ہے۔ مان لیں جیوتی کی جگہ اگر بل اشوک نے منظور کیا ہے تو اشوک منظور کننده کہلانے گا۔

نئی دہلی	ممتا
1 اپریل 2011	روپے 10,000
لکھی تاریخ کے تین ماہ بعد، مجھے یا میرے حکم کے مطابق دس ہزار روپے کی رقم ادا کیجیے جس کی مالیت وصول ہو چکی ہے۔	
مہر	
منظور کیا	
دستخط	
جیوتی	
ممتا	
196 قرول باغ	1.4.2011
نئی دہلی	مہی پال پور نئی دہلی 73-B
کو	110037
جیوتی	
73-B, مہی پال پور	
نئی دہلی	
110037	

شکل 8.1: بل آف ایکچنچ کا نمونہ

اپنے فہم کی جائیج کریں -I

نیچے دیے گئے بل آف ایکچنچ سے متعلق بیانات کے آگے صحیح یا غلط لکھیں:

- ایک بل آف ایکچنچ یا بندہ منظور کرتا ہے۔
- ایک بل آف ایکچنچ لین دار بناتا یا لکھتا ہے۔
- ایک بل آف ایکچنچ سمجھی نقل لین دینوں کے لیے بنایا جاتا ہے۔
- عدالتطلب (On Demand) قابل ادا بگی بل وقت بل کھلاتا ہے۔
- بل آف ایکچنچ میں جس شخص کو رقم کی ادا بگی کی جاتی ہے وہ یا بندہ کھلاتا ہے۔
- ایک تحویل پذیر دستاویز (Negotiable Instrument) پر اس کے بنانے والے کے دستخط کی ضرورت نہیں ہوتی۔
- محبی یاد کیختے ہی واجب الادا بہٹدی کو درشنی چونڈی کہتے ہیں۔
- ایک تحویل پذیر دستاویز کی منتقلی آزادانہ نہیں ہوتی۔
- اقراری نوٹ (Promissory Note) پر مہر لگانا ضروری نہیں ہے۔
- تحویل پذیر دستاویز کی ادا بگی کی تاریخ مقرر نہیں ہوتی۔

8.2 اقراری نوٹ (Promissory Note)

تحویل پذیر دستاویزی قانون 1881 کے تحت اقراری نوٹ کی تعریف اس طرح ہے ”ایک تحریری دستاویز (بنک نوٹ یا کرنی نوٹ نہیں) ہے جس کو لکھنے والا اس پر دستخط کرتا ہے اور غیر مشروط طور پر ایک معینہ رقم کسی شخص کو یا اس کے حکم کے مطابق کسی دوسرے شخص کو یا اس شخص کو جو اس اقراری نوٹ کو پیش کر دینے کا وعدہ کرتا ہے۔“ ریزو بنک آف انڈیا کے قانون (Reserve Bank of India Act) کے تحت ایک اقراری نوٹ حامل (Bearer) کو قابل ادا ہونا غیر قانونی ہے اس لیے ایک اقراری نوٹ کسی بھی حامل کو قابل ادا نہیں ہو سکتا۔

اس تعریف کے مطابق جب ایک شخص ایک غیر مشروط تحریری وعدہ کسی معین شخص یا اس کے حکم کے مطابق کسی دوسرے شخص کو ایک معینہ رقم کی ادائیگی کے لیے کرتا ہے تو ایسے دستاویز کو اقراری نوٹ کہتے ہیں۔
مندرجہ بالا تعریف سے اقراری نوٹ کی مندرجہ ذیل خصوصیات ظاہر ہوتی ہیں:

- یہ تحریری ہوتا ہے۔
- اس میں رقم کی ادائیگی کا غیر مشروط وعدہ ہوتا ہے۔
- اس میں ادا کی جانے والی رقم معین ہوتی ہے۔
- اس پر بنانے والے کے دستخط ہوتے ہیں۔
- اس میں بنانے والے کے دستخط ضروری ہوتے ہیں۔
- یہ ایک معین شخص کو قابل ادا ہوتا ہے۔
- اس پر مہر لگی ہونی چاہئے۔

ایک اقراری نوٹ کوئی کی منظور کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اس کا بنانے والا خود اقراری نوٹ کی رقم ادا کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔

<p style="text-align: center;">اشوک کمار نئی دہلی</p> <p style="text-align: center;">30,000 روپے لکھی تاریخ کے تین ماہ بعد ہریش چندر یا اس کے حکم کے مطابق کوئی ہزار روپے ادا کرنے کا وعدہ کرتا ہوں جس کی مالیت وصول ہو چکی ہے۔</p> <p style="text-align: center;">مہر</p> <p style="text-align: center;">کو ہریش چندر 24، انصاری روڈ دیار گنج، نئی دہلی 110 002</p>	<p style="text-align: center;">اشوک کمار نئی دہلی 01 اپریل 2011</p> <p style="text-align: center;">02، دریہ کالاں چاندنی چوک دہلی 110 006</p>
--	---

شکل 8.2: اقراری نوٹ کا نمونہ

8.2.1 اقراری نوٹ کے فریق (Parties to a Promissory Note)

اقراری نوٹ کے دو فریق ہوتے ہیں:

- بنانے والا یا مرتب (Drawer or Maker) وہ شخص ہوتا ہے جو اقراری نوٹ بناتا یا لکھتا ہے اور اقراری نوٹ میں لکھی ہوئی معینہ رقم ادا کرتا ہے اسے وعدہ کرنے والا (Promisor) بھی کہتے ہیں۔
- مرتب الیہ یا یابنده (Drawee or Payee) وہ شخص ہوتا ہے جس کے حق میں اقراری نوٹ لکھا جاتا ہے۔ اسے موعودہ (Promisee) کہتے ہیں۔ عام طور سے مرتب الیہ یا یابنده بھی ہوتا ہے ابشرطیکہ یہ اقراری نوٹ میں لکھا ہو۔ اقراری نوٹ کے ناموں (دیکھیے شکل 8.2)۔ اشوک کمار اقراری نوٹ کا مرتب یا بنانے والا ہے جو 30,000 روپے دینے کا وعدہ کرتا ہے اور ہریش چندر مرتب الیہ یا یابنده ہے جسے رقم کی ادائیگی کی جانی ہے۔ اگر ہریش اس اقراری نوٹ کا بیچان روہت کے حق میں کرتا ہے تو روہت یابنده کہلاتے گا۔ اسی طرح اگر ہریش چندر اس اقراری نوٹ کو بینک سے بھٹا لیتا ہے تو بینک یابنده کہلاتے گا۔

باکس 2

بل آف ایچیخ اور اقراری نوٹ میں فرق

بل آف ایچیخ اور اقراری نوٹ دونوں ہی ادھار کے وسایاں ہیں اور کئی طرح سے ایک دوسرے کے مشابہ ہیں پھر بھی ان دونوں میں کچھ بنیادی فرق ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔

نمبر شمار	بُنیاد (Basis)	مرتب	بل آف ایچیخ	اقراری نوٹ
-1			یہ دین دار کے ذریعے لکھا جاتا ہے	یہ دین دار کے ذریعے لکھا جاتا ہے
-2	حکم یا وعدہ اور فریق		اس میں رقم کی ادائیگی کا حکم ہوتا ہے۔ اس میں تین فریق ہو سکتے ہیں۔ مرتب، مرتب الیہ اور یابنده۔	اس میں رقم کی ادائیگی کا وعدہ ہوتا ہے۔ اس میں دو فریق ہوتے ہیں مرتب اور یابنده۔
-3	منتظری		اس میں مرتب الیہ یا اس کی طرف سے کسی اور شخص کی منتظری کی ضرورت نہیں ہوتی۔	اس میں کسی منتظری کی ضرورت نہیں ہوتی۔
-4	یابنده		مرتب اور یابنہ ایک ہی فریق ہو سکتے ہیں۔	نوٹ کا مرتب اس کا یابنہ نہیں ہو سکتا۔
-5	نوٹس یا اطلاع		بل کے مسترد ہونے کی صورت میں بل کا حامل اس کے مسترد ہونے کی اطلاع مرتب کر دیتا ہے۔	اس میں مسترد ہونے کی اطلاع دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

شکل 8.3: بل آف ایچیخ اور اقراری نوٹ میں فرق

8.3 بل آف ایچنچ کے فوائد (Advantages of Bill of Exchange)

- بل آف ایچنچ کار و بار میں ادھار کے دستاویز کے طور پر مندرجہ ذیل فوائد کی وجہ سے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔
- تعلقات کا ماحول (Framework for Relationship): بل آف ایچنچ ایک ایسا طریقہ پیش کرتا ہے جس کی وجہ سے فروخت کاری لین دار اور خریدار یاد دین دار کے بیچ ادھار لین دین پر کار و بار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
- شرائط اور پابندیوں کا تیقین (Certainty of Terms and Conditions): لین دار جانتا ہے کہ کس وقت اسے رقم حاصل ہو گی اور دین دار کمکمل طور پر اس تاریخ سے باخبر ہوتا ہے جس وقت اسے رقم ادا کرنی ہے۔ یہ اس حقیقت کے سبب ہے کہ بل آف ایچنچ میں دین دار اور لین دار کے درمیان تمام شرائط پابندیاں تحریری ہوتی ہیں جیسے ادا کی جانے والی رقم، ادا نیگی کی تاریخ، ادا کیے جانے والا سود، (اگر ہو) اور ادا نیگی کی جگہ وغیرہ۔
- ادھار کا سهل ذریعہ (Convenient means of credit): بل آف ایچنچ خریدار کو یہ آسانی فراہم کرتا ہے کہ وہ ادھار مال خرید کر اس کی رقم کی ادا نیگی ادھار کی مدت ختم ہونے کے بعد کرے جبکہ مال کے فروخت کار کو ادھار کی طویل مدت ہونے کے باوجود رقم فوراً یا تو بل کو بینک سے بھٹک کر یا پھر اس کا بیچان کسی تیسرے فریق کے حق میں کر کے مل جاتی ہے۔
- قطی ثبوت (Conclusive Proof): بل آف ایچنچ ادھار کے لین دین کا ایک قانونی ثبوت ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تجارتی عمل کے دوران خریدار نے فروخت کار سے ادھار سامان حاصل کیا ہے۔ اس لیے اسے فروخت کار کو رقم کی ادا نیگی کرنی ہو گی۔ رقم کی ادا نیگی سے انکار کی صورت میں قانونی طور پر لین دار کو ناظر (Notary) سے ایک شرکلیٹ حاصل کرنا ہوتا ہے جو کہ واقع کا ثبوت ہوتا ہے۔
- آسان منتقلی (Easy Transferability): قرض کی ادا نیگی بل آف ایچنچ کے بیچان اور سپردگی کے ذریعے کی جاسکتی ہے۔

اپنی فہم کی جانچ کریں - II

خالی جگوں کو مناسب الفاظ سے پُر کریں

- اقراری نوٹ میں درج رقم جس شخص کو قابل ادا ہوتی ہے وہ _____ کہلاتی ہے۔
- ایک دستخط شدہ تحویل پذیر دستاویز کی منتقلی کسی دوسرے شخص کو _____ کے نام سے جانی جاتی ہے۔
- اقراری نوٹ میں جو شخص رقم کی ادا نیگی کا وعدہ کرتا ہے وہ _____ کہلاتی ہے۔
- ایک شخص جو اقراری نوٹ کا بیچان کسی دوسرے کے حق میں کرتا ہے وہ _____ کہلاتا ہے۔

8.4 بل کی متمکیل مدت یا پختگی (Maturity of Bill)

متمکیل مدت یا پختگی لفظ سے مراد اس تاریخ سے ہے جس تاریخ کو بل آف ایچنچ یا اقراری نوٹ کی رقم کی ادا نیگی کی جانی ہے۔ بل کی واجب الادا تاریخ یا ادا نیگی کی تاریخ (Maturity Date) نکالنے کے لیے جس تاریخ کو ادھار کی مدت ختم ہوتی ہے اس

میں تین دن جنہیں رعایت کے دن کہتے ہیں، جوڑ دیے جاتے ہیں، اور پھر اُسی تاریخ پر دستاویز قابل ادا ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ایک بل 05 مارچ کو لکھا جاتا ہے جو 30 دن کے بعد قابل ادا ہونا ہے تو اس کی ادا یگی کی تاریخ 07 اپریل ہوگی یعنی 5 مارچ سے 33 دن۔ اگر ادا یگی کی مدت ایک ماہ ہے تو ادا یگی کی تاریخ 08 اپریل ہوگی یعنی 05 مارچ سے ایک ماہ اور تین دن جبکہ اگر ادا یگی کے دن عوامی چھٹی ہے تو بل کی ادا یگی آخري رعایتی دن سے پہلے کے کاروباری دن میں ہوگی۔ اوپر کی مثال کے مطابق اگر 08 اپریل کو عام چھٹی ہے تو ادا یگی کی تاریخ 07 اپریل ہوگی۔ تحويل پذیر دستاویزی قانون 1881 کے تحت اگر حکومت ہند نے کسی ایسے دن کی پنجمائی چھٹی کا اعلان کر دیا ہے جو کہ ادا یگی کی تاریخ ہے تو اسی صورت میں چھٹی کے بعد کا اگلا کاروباری دن ادا یگی کی تاریخ کا دن مانا جائے گا۔ مثلاً گپتا نے 20,000 روپے کا ایک بل ورما پر لکھا جس کی ادا یگی کی تاریخ 08 اپریل ہے اور حکومت نے 08 اپریل کی چھٹی کا اعلان کر دیا، اب چونکہ 08 اپریل کی چھٹی ہے تو تحويل پذیر دستاویزی قانون کے تحت اس بل کی ادا یگی کی تاریخ 09 اپریل ہوگی۔

8.5 بل کو بھانا (Discounting of Bill)

اگر بل کے حامل کو پیسے کی ضرورت ہے تو وہ ادا یگی کی تاریخ سے پہلے بھی بینک پنچ کر بل کے بد لے نقد حاصل کر سکتا ہے۔ اس صورت میں بینک کچھ سود (اس حالت میں کٹوئی) (Discount) کہا جاتا ہے) کاٹ کر بل کی ادا یگی کر دے گا۔ بینک سے بل کے بد لے نقد حاصل (Encashing) کرنے کے عمل بل کا بھانا کہتے ہیں۔ بینک مرتب الیہ سے ادا یگی کی تاریخ پر رقم وصول کر لیتا ہے۔

8.6 بل کا بیچان (Endorsement of Bill)

کوئی بھی حامل (Holder) بل کو منتقل کر سکتا ہے تو افیکٹ کے اس کی منتقلی پر پابندی عائد نہ کی گئی ہو یعنی بل کو اس کی منتقلی کی ممانعت کے الفاظ کے ساتھ سکارا (Negotiated) گیا ہے۔ مرتب بل کو بآسانی بل کے پیچھے اپنے دستخط کر کے اور بیچان کیے جانے والے کا نام لکھ کر بل کو منتقل کر سکتا ہے۔ اس طرح بل پر دستخط کرنے اور منتقل کرنے کا عمل بیچان کہلاتا ہے۔

8.7 کھاتہ داری کا عمل (Accounting Treatment)

وہ شخص جو بل کو لکھتا ہے اور بل پھر منقولی کے بعد اس کے پاس واپس آ جاتا ہے تو یہ بل اُس شخص کے لیے قابل وصول بل (Bills Receivable) ہے۔ وہ شخص جو اس بل کو منقول کرتا ہے اُس کے لیے وہ قابل ادا بل (Bill Payable) ہے۔ اقراری نوٹ کی صورت میں بل لکھنے والے کے لیے یہ بل قابل ادا ہے جبکہ جس کے حق میں یہ اقراری بنایا گیا ہے اس کے لیے یہ بل قابل وصول ہے۔ قابل وصول بل اٹا شہ ہے جبکہ بل قابل ادا دین داری۔ بل اور نوٹ کا استعمال ادل بدل کر ہوتا ہے۔

8.7.1 مرتب یا وعدہ کرنے والے کی کتابوں میں (In the Books of Drawer/ Promisor)

ایک قبل وصول بل کو وصول کرنے والا چار طرح سے استعمال کر سکتا ہے:

- 1 - وہ بل کو ادائیگی کی تاریخ تک اپنے پاس رکھ سکتا ہے اور
 - (a) ادائیگی کی تاریخ پر براہ راست جا کر قم وصول کر لیتا ہے، یا
 - (b) اپنے بینک کے ذریعے قم وصول کرتا ہے۔
 - 2 - وہ بل کو بینک سے بھٹنا سکتا ہے۔
 - 3 - وہ بل کا بیچان اپنے کسی مالی دار (Creditor) کے حق میں کر سکتا ہے۔
- مرتب یا بل وصول کرنے والے کی کتابوں میں اوپر دی گئی چاروں متبادل صورتوں کے کھاتے داری کا عمل نیچے دیا گیا ہے یہ مانتے ہوئے کہ بل کی ادائیگی منظور کرنندہ نے ادائیگی کی تاریخ پر کر دی ہے۔
- (1) جب مرتب بل کو ادائیگی کی تاریخ تک اپنے پاس رکھتا ہے۔
- بل وصول کرنے پر

Bills Receivable A/c

Dr.

To Debtors A/c

بل کی مدت تکمیل پوری ہونے پر

Cash/Bank A/c

Dr.

To Bills Receivable A/c

بل جمع کے لیے بھیجنے پر

جب مرتب بل کو اپنے پاس رکھتا ہے اور ادائیگی کی تاریخ سے کچھ دن پہلے بینک میں جمع کے لیے بھیج دیتا ہے تو ایسی صورت میں مندرجہ ذیل دونوں راجات کے جاتے ہیں:

Bills Sent for Collection A/c

Dr.

To Bills Receivable A/c

بینک سے اطلاع ملنے پر کہ بل جمع یا وصول کر لیا گیا ہے۔

Bank A/c

Dr.

To Bills Sent for Collection A/c

(2) مرتب یا وصول کرنے والا جب بل کو بینک سے بھٹنا لیتا ہے:

بل وصول ہونے پر

Bills Receivable A/c

Dr.

To Debtors A/c

بل کو بُہنانے پر

Bank A/c	Dr.
Discount A/c	Dr.
To Bills Receivable A/c	

واجب الادا ہونے کی تاریخ پر (On Maturity)

کوئی اندر اج نہیں ہوتا کیونکہ بل اب بینک کی ملکیت ہے اس لیے بینک بل کی رقم کو منظور کرنے سے وصول کرتا ہے اور
مرتب کی کتابوں کے جزئی میں کوئی اندر اج نہیں ہوتا۔
(3) جب بل کا وصول کرنے والا بل کا بیچان اپنے لین دار کے حق میں کر دیتا ہے:

بل وصول ہونے پر

Bills Receivable A/c	Dr.
To Debtor's A/c	
بل کا بیچان کرنے پر	
Creditor's A/c	Dr.
To Bills Receivable A/c	

واجب الادا ہونے کی تاریخ پر

کوئی اندر اج نہیں ہوتا کیونکہ بل لین دار کے حق میں منتقل کیا جا چکا ہے اس لیے اب لین دار بل کا مالک ہے اور ادا میگی کی
تاریخ پر وہی رقم وصول کرے گا۔ اس لیے مرتب یا بیچان کرنے والے کی کتابوں میں کوئی اندر اج نہیں ہوگا۔

8.7.2 منظور کرنے کی کتابوں میں (In the Books of Acceptor/Promissory)

منظور کرنے کی کتابوں میں سبھی چاروں متبادل صورتوں میں مندرجہ ذیل جزئی اندر اجات کی جائیں گی۔ چاہے بل کو اپنے پاس رکھا
گیا ہو، بھٹاکیا گیا ہو یا بیچان کر دیا گیا۔
بل منظور کرنے پر

Creditor's A/c	Dr.
To Bills Payable A/c	

بل کے واجب الادا ہونے کی تاریخ پر (On Maturity of the Bill)

Bills Payable A/c	Dr.
To Bank A/c	

باقس 3

1- جب مرتب بل کو ادا یگی کی تاریخ تک اپنے پاس رکھتا ہے اور ادا یگی کی تاریخ پر براہ راست بل کی رقم وصول کر لیتا ہے۔

منظور کنندہ یاد دین دار کی کتابیں	مرتب یا لین دار کی کتابیں	لین دین
Purchases A/c Dr. To Creditor's A/c	Debtor's A/c Dr. To Sales A/c	اشیاء کی فروخت / خریداری
Creditor's A/c Dr. To Bills Payable A/c	Bills Receivable A/c Dr. To Debtor's A/c	بل کے وصول یا بی / منظوری پر
Bills Payable A/c Dr. To Cash/Bank A/c	Cash/Bank A/c Dr. To Bills Receivable A/c	بل کے جمع کرنے پر

2- جب مرتب بل کو اپنے پاس رکھتا ہے اور ادا یگی کی تاریخ سے کچھ دن پہلے وہ بینک میں جمع کرنے پہنچ دیتا ہے

دین دار یا منظور کنندہ کی کتابیں	مرتب یا لین دار کی کتابیں	لین دین
Purchases A/c Dr. To Creditor's A/c	Debtor's A/c Dr. To Sales A/c	اشیاء کی فروخت / خریدار
Creditor's A/c Dr. To Bills Payable A/c	Bills Receivable A/c Dr. To Debtor's A/c	بل کے وصول کرنے / منظور کرنے پر
No entry	Bills sent for collection A/c Dr. To Bill Receivable A/c	بل جمع کرنے کے لیے بھجنے پر
Bills Payable A/c Dr. To Bank A/c	Bank A/c Dr. To Bill Sent for Collection A/c	بینک سے اطلاع ملنے پر کہ بل جمع ہو چکا ہے

3- جب مرتب بل کو بینک سے بھٹاکیتا ہے

منظور کنندہ یاد دین دار کی کتابیں	مرتب / لین دار کی کتابیں	لین دین
Purchases A/c Dr. To Creditor's A/c	Debtor's A/c Dr. To Sales A/c	اشیائی کی فروخت / خریداری پر
Creditor's A/c Dr. To Bills payable A/c	Bills Receivable A/c Dr. To Debtor's A/c	بل کے وصول کرنے / منظور کرنے پر
No Entry	Bank A/c Dr. Discount A/c Dr. To Bills Receivable A/c	بل کے بھٹانے پر
Bills payable A/c Dr. To Bank A/c	No entry	ادا یگی کی تاریخ پر

4۔ جب مرتب مل کا بیچان اپنے کسی لین دار کے حق میں کر دیتا ہے۔

منظور کنندہ یادیں دار کی کتابیں	مرتب / لین دار کی کتابیں	لین دین
Purchase A/c Dr. To Creditor's A/c	Debtor's A/c Dr. To Sales A/c	اشیاء کی فروخت / خریداری پر
Creditor's A/c Dr. To Bills payable A/c	Bills Receivable A/c Dr. To Debtor's A/c	بل کے وصول کرنے / منظور کرنے پر
No entry	Creditor's A/c Dr. To Bills Receivable A/c	بل کے بیچان پر
Bills payable A/c Dr. To Bank A/c	No entry	بل کی ادائیگی کی تاریخ پر تکمیل مدت (Maturity)

چاروں متبادل صورتوں میں مرتب اور منظور کنندہ کی کتابیں میں کی جانے والی جزئی اندر اجات اور پردازی گئی ہیں۔

مثال 1

1 جنوری 2010 کو امت نے سمت کو 120,000 روپے کا مال ادھار بیچا۔ امت نے ایک بل اس رقم کا سمت پر تین ماہ کی مدت کا لکھا۔ سمت نے بل منظور کر کے امت کو واپس کر دیا۔ ادائیگی کی تاریخ پر امت نے اپنی منظوری دیدی۔

مندرجہ ذیل صورتوں میں جزوی اندر اجات کریں۔

(i) امت نے ادائیگی کی تاریخ تک بل کو اپنے پاس رکھا اور پھر براہ راست رقم وصول کی۔

(ii) امت نے بل کو بینک سے 12% سالانہ کی درست سے بھٹنا لیا۔

(iii) امت نے بل کا بیچان اپنے لین دار اکیلت کے حق میں کر دیا۔

(iv) امت نے 31، مارچ 2006 تک بل اپنے پاس رکھ کر اسے بینک میں جمع کے لیے بھیج دیا اور 05، اپریل 2010 کو بینک سے اطلاع موصول ہوئی۔

امت کی کتابیں

جتنل

حل

(i) جب مل ادائیگی کی تاریخ (Maturity) تک روکا جاتا ہے۔

تاریخ	تفصیلات	L.F	نام رقم	جمع رقم
2010 جنوری 01	Sumit's A/c To Sales A/c (سمت کو ادھار مال فروخت)	Dr.	20,000	20,000
جنوری 01	Bills Receivable A/c To Sumit's A/c (تین ماہ کے لیے مدت کی سمت کی منظوری ملی)	Dr.	20,000	
اپریل 05	Bank A/c To Bills Receivable A/c (سمت سے ادائیگی کی تاریخ پر قم)	Dr.	20,000	

(ii) جب مل کو ادائیگی کی تاریخ تک مرتب اپنے پاس رکھتا ہے۔

جتنل

تاریخ	تفصیلات	L.F	نام رقم	جمع رقم
2010 جنوری 01	Sumit's A/c کبری کھاتہ (سمت کو ادھار مال فروخت)	Dr.	20,000	20,000
جنوری 01	Bills Receivable A/c To Sumit's A/c (سمت سے تین ماہ کی منظوری ملی)	Dr.	20,000	
جنوری 01	Bank A/c چھوٹ (رعایت) کھاتہ To Bil Recivable A/c (سمت کی منظوری کو بینک سے ہٹانا لیا)	Dr. Dr.	19,400 600	

(iii) جب امت بل کا بیچان اپنے لین دار انکت کے حن میں کر دیتا ہے۔

جزل

تاریخ	تفصیلات	L.F	نام رقم	جمع رقم
2010 جنوری 01	سمت کھاتہ To Sales A/c (سمت کو ادھار مال بیچا)	Dr.	20,000	20,000
جنوری 01	Bills Receivable A/c To Sumit's A/c (سمت سے تین ماہ کی منظوری ملی)	Dr.	20,000	20,000
جنوری 01	انکت کھاتہ To Bil Recivable A/c (سمت کی منظوری کا بیچان انکت کے حن میں ہوا)	Dr.	20,000	20,000

(iv) جب امت بل کو بینک میں جمع ہونے کے لیے بیچ دیتا ہے

جزل

تاریخ	تفصیلات	کھانہ نمبر	نام رقم	جمع رقم
2010 جنوری 01	Sumit's A/c To Sales A/c (سمت کو ادھار مال بیچا)	Dr.	20,000	20,000
جنوری 01	Bills Receivable A/c To Sumit's A/c (سمت سے تین ماہ کی منظوری ملی)	Dr.	20,000	20,000
ماਰچ 31	Bills Sent for Collection A/c To Bil Recivable A/c (بل جمع ہونے بیچ دیا)	Dr.	20,000	20,000
اپریل 05	Bank A/c To Bills sent for collection A/c (بل بینک کے ذریعے جمع کر لیا گیا)	Dr.	20,000	20,000

بل آف آپچیج

371

سمت کی کتابوں میں ان سبھی چار صورتوں میں مندرجہ ذیل جزئی اندراجات کی جائیں گی۔

سمت کی کتابوں میں جزئی اندراجات کی جائیں گی۔

تاریخ	تفصیلات	L.F	نام رقم	جمع رقم
2010 جنوری 01	Purchase A/c To Amit's A/c (امت سے ادھار مال خریدا)	Dr.	20,000	20,000
جنوری 01	Amit's A/c To Bills Payable A/c (امت کے بل کو تین ماہ کی منظوری دی)		20,000	20,000
اپریل 04	Bills Payable A/c To Bank A/c (تکمیل مدت پر قم ادا کی)	Dr.	20,000	20,000

مثال 2

15، مارچ 2010 کو ریمش نے 8000 روپے کا ادھار مال دیپک کو بیجا، دیپک نے ریمش کا لکھا ہوا تین ماہ کی مدت کا ایک بل منظور کیا۔ 15، اپریل کو ریمش نے اس بل کا بیچان اپنی لین دار پونم کے حق میں 8250 روپے کے قرضے بدے مکمل حساب کے طور پر کر دیا۔ 15 مئی کو پونم نے 12% سالانہ در سے بینک سے بل بھنا لیا۔ اداگی کی تاریخ پر دیپک نے بل کی رقم ادا کر دی۔ ریمش، دیپک اور پونم کی کتابوں میں ضروری جزئی اندراجات کریں۔

ریمش کی کتابیں جزئی اندراجات کریں

تاریخ	تفصیلات	کھاتہ نمبر	نام رقم	جمع رقم
2010 ماਰچ 15	دیپک کھاتہ کبری کھاتہ کو (دیپک کو ادھار مال بیچا)	Dr.	8,000	8,000

15، مارچ	Bills Receivable A/c To Deepak A/c (دیپک کی منظوری تین ماہ کے لیے ملی)	Dr.		8,000	8,000
15، مارچ	Poonam's A/c To Bills Receivable A/c To Discount Received A/c (پونم کو بل کا بیچان 8250 روپے کے قرض کے مکمل حساب کے طور پر کیا گیا)	Dr.		8,000 250	8,000

دیپک کی کتابیں

جزئی

تاریخ	تفصیلات	کھاتہ نمبر	نام رقم	جمع رقم
2010 05، مارچ	Purchases A/c To Ramesh A/c (رمیش سے ادھار مال خریدا)	Dr.	8,000	8,000
05، مارچ	To Ramesh's A/c To Bills Payable A/c (رمیش کے لئے بل کو تین ماہ کی منظوری دی)	Dr.	8,000	8,000
18، جون	Bills Payable A/c To Bank A/c (ادا گئی کی تاریخ پر رقم ادا کی)	Dr.	8,000	8,000

پوہم کی کتابیں
جزل

تاریخ	تفصیلات	کھاتہ نمبر	نام رقم	جمع رقم
2010 15، مارچ	Bills Receivable A/c Dr. Discount Allowed A/c Dr. To Ramesh's A/c (رمیش نے دیپک کی منظوری کا بیچان ہمارے حن میں کیا جو روپے کی ادائیگی تھی مکمل حساب کے طور پر 8250		8,000 250	82,500
15، مارچ	Bank A/c Dr. Discount Allowd A/c Dr. To Deepak A/c (بل کو بینک سے بھئنا لیا گیا)		7,920 80	8,000

8.8 بل کا استرداد/ناقابل ادائیگی ہونا (Dishonour of a Bill)

جب مرتب الیہ (Drawee) ادائیگی کی تاریخ پر بل کی رقم ادا کرنے میں ناکام رہتا ہے تو اسے بل کا استرداد (Dishonour) ہو جانا کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں منظور کنندہ کی دین داری پہلے جیسی بنی رہتی ہے۔ اس لیے بل وصول کرنے کی اٹی امڑی یا اندر اراج کر دینا چاہئے۔ مثلاً انجو کو منجو سے منظور کیا ہوا بل وصول ہوا جو کہ مسترد ہو گیا۔ استرداد کے ان اندراجات کو انجو (وصول کنندہ) کی کتابوں میں مندرج ذیل طریقے سے دکھائیں گے۔

جب انجو بل کو ادائیگی کی تاریخ (Maturity) تک اپنے پاس رکھتی ہے

Manju's A/c Dr.
To Bill Receivables A/c

جب انجو بل کا بیچان سندھیا کے حق میں کر دیتی ہے

Manju's A/c Dr.
To Sandhaya's A/c

جب انجو بل کو بینک سے بھئنا لیتی ہے

Manju's A/c Dr.
To Bank A/c

جب انجوں بل کو بینک میں جمع ہونے کے لیے بھیج دیتی ہے

Manju's A/c

Dr.

To Bill Sent for Collection A/c

مثال 3

01 جنوری 2006 کو شیبا نے وشال کو 10,000 روپے کا مال بیچا اور اس پر ایک بل آف آئچنچ دو ماہ کی مدت کا لکھا۔ وشال نے بل منظور کیا اور شیبا کو واپس کر دیا۔ ادا بیگل کی تاریخ پر وشال کے ذریعے بل ناقابل ادا ہو گیا۔ نیچے دی ہوئی سچی صورتوں کا اندر ارج شیبا اور وشال کی کتابوں میں کرو:

- (i) جب شیبا بل کو ادا بیگل کی تاریخ تک اپنے پاس رکھتی ہے؛
- (ii) جب شیبا بل کو 200 روپے کی کٹوتی پر بھٹا لیتی ہے؛
- (iii) جب شیبا بل کا بیچان لال چند کو کر دیتی ہے۔

حل

- (i) جب شیبا نے بل کو ادا بیگل کی تاریخ تک اپنے پاس رکھا۔

شیبا کی کتابیں
جزئی

تاریخ	تفصیلات	کھانہ نمبر	نام رقم	جمع رقم
2010 جنوری 01	Vishal's A/c To Ramesh's A/c (وشال کو ادھار مال بیچا)	Dr.	10,000	10,000
جنوری 01	Bills Receivable A/c To Vishal's A/c (وشال کی منظوری ملی)	Dr.	10,000	10,000
ماہر 04	Vishal's A/c To Bills Receivable A/c (وشال نے اپنی منظوری کو مسترد کیا)	Dr.	10,000	10,000

بل آف ایچنج

375

(ii) جب شیبانے بل کو بھنا لیا

جزل

تاریخ	تفصیلات	کھاتہ نمبر	نام رقم	جمع رقم
2010 جنوری 01	Vishal's A/c To Sales A/c (وشاں کو مال بیچا)	Dr.	10,000	10,000
جنوری 01	Bills Receivable A/c To Vishal's A/c (وشاں کی منظوری ملی)	Dr.	10,000	10,000
جنوری 01	Bank A/c Discount A/c To Bills Receivable A/c (بل کو بینک سے بھنا لیا)	Dr.	9,800 200	10,000
ماچ 04	Vishal's A/c To Bank A/c (وشاں نے اپنی منظوری کو مسترد کیا)	Dr.	10,000	10,000

(ii) جب شیبانے بل کا بیجان لال چند کو کر دیا

جزل

تاریخ	تفصیلات	کھاتہ نمبر	نام رقم	جمع رقم
2010 جنوری 01	Vishal's A/c To Sales A/c (وشاں کو مال بیچا)	Dr.	10,000	10,000

01، جنوری	Bills Receivable A/c To Vishal's A/c (وشاں کی منظوری ملی)	Dr.		10,000	10,000
01، جنوری	Lal Chand's A/c To Bills Receivable A/c (وشاں کی منظوری کا بیچان لال چنڈ کیا)	Dr.		10,000	10,000
04، مارچ	Vishal's A/c To Lal Chand's A/c (بیچان کیے ہوئے بل کو وشاں نے مسترد کیا)	Dr.		10,000	10,000

جنکہ وشاں کی کتابوں میں مندرجہ ذیل امدادیات کیے جائیں گے۔

وشاں کی کتابیں (جٹیں)

تاریخ	تفصیلات	کھاتہ نمبر	نام رقم	جمع رقم
2010 01، جنوری	Purchases A/c To Shieba's A/c (شیبا سے مال خریدا)	Dr.		10,000
01، جنوری	Shieba's A/c to Bills Payable A/c (شیبا کے ڈرافٹ کو منظوری دی)	Dr.		10,000
04، مارچ	Bills Payable A/c To Shieba's A/c (شیبا کے حق میں دی گئی منظوری مسترد ہوئی)	Dr.		10,000

8.8.1 ناظری اخراجات (Noting Charges)

بل آف ایچینج تکمیل مدت (Maturity) پر ادا یگی کے لیے ضرور پیش کیا جانا چاہئے۔ اگر ادا یگی کی تاریخ پر بل پیش نہ کیا جائے تو مرتب الیہ اپنی دین داری سے بری الذمہ (Absolved) ہو جاتا ہے۔ بل کے صحیح طور پر پیش کرنے سے مراد یہ ہے کہ بل منظور کرنندہ کو ادا یگی کی تاریخ پر کاروباری اوقات (Working hour) کے دوران ہی پیش کیا جانا چاہئے۔ بل صحیح طور پر پیش کیے جانے کے باوجود مسترد ہو گیا۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اسے کسی عوامی ناظر (Notary Public) کی تصدیق یا اس

بل آف آپچنج

377

کی نوٹنگ (Noting) کی ضرورت ہوتی ہے۔ نوٹنگ سے ادا یگی نہ ہونے (Dishonour) کی تصدیق ہوتی ہے۔ اپنی اس خدمت کے بدلے عوامی ناظر کچھ فیس وصول کرتا ہے جسے ناظری اخراجات (Noting Charges) کہتے ہیں۔

ناظر عام طور سے مندرجہ ذیل امور کی تصدیق کرتا ہے:

- استرداد کی تاریخ، حقائق اور وجہات؛
- اگر بل واضح یا ظاہری طور پر مسترد نہیں ہوا تو وہ وجہات جن کی بنا پر اس نے بل کو مسترد مانا؛
- ناظری اخراجات کی رقم

مرتب کی کتابوں میں ناظری اخراجات کے مندرجہ ذیل اندراجات ہوتے ہیں۔

جب مرتب ناظری اخراجات خود ادا کرتا ہے

Drawee's A/c

Dr.

To Cash A/c

جب بیجان پانے والا ادا کرتا ہے

Drawee's A/c

Dr.

To Endorsee A/c

جب بینک بھنائے گئے بل پر ادا کرتا ہے

Drawee's A/c

Dr.

To Bank A/c

بل کو بینک میں جمع کے لئے بھیجے جانے کی صورت میں بینک ادا کرے

Drawee's A/c

Dr.

To Bank A/c

بیباں یہ بات دھیان میں رکھنے کی ہے کہ ناظری اخراجات کوئی بھی ادا کرے، آخر کار یہ مرتب الیہ کو ہی برداشت کرنے ہوں گے۔ اسی لیے مرتب الیہ کو ہی مرتب کی کتابوں میں ڈیبٹ کرتے ہیں ایسا اس لیے کرتے ہیں چونکہ بل کے مسترد (Dishonour) کا ذمہ دار وہی ہے اس لیے اسی کو ان اخراجات کی ادا یگی کرنی پڑتی ہے۔ ناظری اخراجات کے اندراج کے لیے مرتب الیہ (Drawee) اپنی کتابوں میں ناظری اخراجات کا کھاتہ کھولتا ہے وہ ناظری اخراجات کو ڈیبٹ میں اور مرتب کو جمع کھاتے یا کریڈٹ میں درج کرتا ہے۔ مثال کے طور پر 01 جنوری 2006 کو آزاد نے بنی کو 15,000 کا مال بیچا اور فوراً ایک بل تین ماہ کی مدت کا اس پر لکھ دیا۔ ادا یگی کی تاریخ پر بل مسترد ہو گیا اور بل کے حامل نے 50 روپے ناظری اخراجات کے طور پر ادا کیے مندرجہ ذیل صورتحال میں آزاد اور بنی کی کتابوں میں مندرجہ ذیل جزئی اندراجات ہوں گی:

- (a) جب آزاد نے ادائیگی کی تاریخ تک بل کو اپنے پاس رکھا۔
 (b) جب آزاد نے فوراً بینک سے 12% سالانہ در سے بل کو بھٹا لیا۔
 (c) جب آزاد نے بل کا بیچان اپنی لین دار چتر کے حق میں کر دیا۔
 آزاد کی کتابوں میں مندرجہ ذیل اندراجات ہوں گی:

آزاد کی کتابیں (جزل)

تاریخ	تفصیلات	L.F.	نام رقم	جمع رقم
2006 جنوری، 01	Bunty's A/c To Sales A/c (بُٹی کو سامان بیچا)	Dr.	15,000	15,000
جنوری، 01	Bills Receivable A/c To Bunty's A/c (بُٹی کی منظوری ملی)	Dr.	15,000	15,000
اپریل، 04	Bunty's A/c To Bills Receivable A/c To Cash A/c (بُٹی کی منظوری مسترد ہو گئی اور ناظری اخراجات 50 روپے ادا کیے)	Dr.	15,050	15,000 50

(ii) جب بل کو بینک سے بھٹا لیا گیا۔

جزل

تاریخ	تفصیلات	L.F.	نام رقم	جمع رقم
2006 جنوری، 01	Bunty's A/c To Sales A/c (بُٹی کو سامان بیچا)	Dr.	15,000	15,000

جنوری، 01	Bills Receivable A/c To Bunty's A/c (بنٹی کی منظوری تین ماہ کی لیے ملی)	Dr.		15,000	15,000
جنوری، 01	Bank A/c Discount A/c To Bills Receivable A/c (بنٹی کی منظوری کا بل بخنا لیا گیا)	Dr. Dr.		14,550 450	15,000
اپریل، 04	Bunty's A/c To Bank A/c (بنٹی کی منظوری مسترد ہو گئی اور بینک نے ناظری اخراجات ادا کیے)	Dr.		15,050	15,050

(iii) جب بل کا بیچان چڑا کو کر دیا گیا

جزئی

تاریخ	تفصیلات	کھاتہ نمبر	نام رقم	جمع رقم
جنوری، 01 2006	Bunty's A/c To Sales A/c (بنٹی کو سامان بیچا)	Dr.	15,000	15,000
جنوری، 01	Bills Receivable A/c To Bunty's A/c (بنٹی کی منظوری ملی)	Dr.	15,000	15,000
جنوری، 01	Chitra's A/c To Bills Receivable A/c (بنٹی کی منظوری کا بیچان چڑا کیا)	Dr.	15,000	15,000
اپریل، 04	Bunty's A/c To Chitra's A/c (بنٹی کی منظوری مسترد ہو گئی اور چڑا نے 50 روپے کے ناظری اخراجات ادا کیے)	Dr.	15,050	15,050

مندرجہ بالائیں صورتوں میں بُٹی کی کتابوں میں مندرجہ ذیل اندر اجات ہوں گے۔

بُٹی کی کتابیں

جزل

تاریخ	تفصیلات	L.F	نام رقم	جمع رقم
2006 جنوری، 01	Purchases A/c To Azad's A/c (آزاد سے سامان خریدا)	Dr.	15,000	15,000
جنوری، 01	Azad'a A/c To Bills Payable A/c (آزاد کے ڈرافٹ کو منظوری دی)	Dr.	15,000	15,000
اپریل، 04	Bills Payable A/c Noting Charges A/c To Azad's (آزاد کو دی ہوئی منظوری مسترد ہو گئی)	Dr. Dr. Dr.	15,000 50	15050

8.9 بل کی تجدید (Renewal of the Bill)

کبھی کبھی بل کا منظور کرنده بل کی ادائیگی کی تاریخ پر ادا کرنے میں قاصر ہوتا ہے۔ لہذا ایسی صورت میں وہ مرتب (Drawer) کے پاس ادائیگی کی مدت بڑھانے کی درخواست کرتا ہے۔ اگر یہ درخواست مان لی جاتی ہے تو پرانا بل منسوخ ہو جاتا ہے اور نیا بل ادائیگی کی نئی شرائط کے مطابق منظور کر کے لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی بل کی تجدید کہلاتا ہے۔ چونکہ بل آپسی رضامندی سے منسوخ کیا گیا ہے اس لیے بل کی تقدیق مسترد (Noting) کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔

مرتب الیہ بڑھائی گئی اُدھار کی مدت کے عوض میں مرتب کو سود دیتا ہے۔ یہ سود یا تو نقد دیا جاتا ہے یا پھر نئے بل میں جوڑ دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ادائیگی کی رقم کا ایک حصہ ادا کر دیا جاتا ہے اور بقیہ رقم کا نیا بل لکھ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 10,000 روپے کا بل 3,000 روپے کی نقد ادائیگی پر منسوخ کر دیا گیا اور ایک نیا بل 7000 روپے کا سود سمیت فریقین کی آپسی رضامندی سے منظور کر لیا گیا۔ مرتب اور مرتب الیہ کی کتابوں میں جزئی اندر اج ویسے ہی رہیں گے جیسے بل کے مسترد کا اندر اج

بل آف ایچنج

381

ہوتا ہے۔ اگر سود کی رقم نقد ادائیگی کی جاتی تو مرتب، مرتب الیہ کے کھاتے کوڈبیٹ میں اور سود کو جمع کھاتے یا کریڈٹ میں دکھاتا ہے جبکہ مرتب الیہ اپنی کتابوں میں سود کوڈبیٹ کرتا ہے اور مرتب کے کھاتے میں کریڈٹ دکھاتا ہے۔ تجدید کی صورت میں مرتب اور مرتب الیہ کی کتابوں میں پرانے بل کی منسونی، سود اور نئے بل کی منظوری سے متعلق جزو اندراجات مندرجہ ذیل طریقے سے ہوں گے:

مرتب الیہ کی کتابیں	مرتب کی کتابیں	لین دین
Bills Payable A/c To Drawer's A/c	Dr. Drawee's A/c To Bills Receivable A/c	پرانے بل کے منسونی ہونے پر
Interest A/c To Drawer's A/c	Dr. Drawee's A/c To Interest A/c	سود
Drawer's A/c To Bills Payable A/c	Dr. Bill Receivable A/c To Drawee's A/c	نیا بل

مثال کے طور پر 1، فروری 2006 کو روی نے موہن کو 18,000 روپے کا ادھار مال بیچا۔ موہن نے 3000 روپے کی نقد ادا کی اور بقیہ رقم کے لیے تین ماہ کی مدت کا نیا بل منظور کیا۔ ادا کی کی تاریخ پر موہن نے روی سے پرانا بل منسون کرنے اور اس کی جگہ دو ماہ کی مدت کا نیا بل لکھنے کی درخواست کی۔ موہن نے 12% سالانہ کی در سے سود نقد دینے کا فیصلہ کیا۔ روی نے موہن کی درخواست مانتے ہوئے پرانا بل منسون کر کے ایک نیا بل لکھا۔ ادا کی کی تاریخ پر موہن نے بل کی رقم ادا کر دی۔ اس صورت میں روی اور موہن کی کتابوں میں مندرجہ ذیل اندراجات ہوں گے۔

روی کی کتابیں (جٹل)

تاریخ	تفصیلات	L.F	نام رقم	جمع رقم
2006 فروری 01	Mohan's A/c To Sales A/c (موہن کو سامان بیچا)	Dr.	18,000	18,000
فروری 01	Cash A/c Bills Receivable A/c To Mohans' A/c (روی کو 3,000 روپے نقد دیے اور بقیہ کی منظوری ملی)	Dr. Dr.	3,000 15,000	18,000

میں، 01	Mohna's A/c Dr. To Bills Receivable A/c To Interest A/c (پرانے بل کو منسونی اور تجدید پر 100 روپے کے سود کا چارج)		15,300	15,000 300
میں، 04	Bills Receivable A/c Dr. Cash A/c Dr. To Mohan's A/c (موہن سے نئی منظوری ملی)		15,000 300	15,300
میں، 07، جولائی	Bank A/c Dr. To Bills Receivable A/c (موہن نے بل ادا کیا)		15,000	15,000

موہن کی کتابیں (جزء)

تاریخ	تفصیلات	کھانہ نمبر	نام رقم	جمع رقم
2006 فروی، 01	Purchases A/c Dr. To Ravi A/c (روی سے ادھار مال خریدا)		18,000	18,000
فروی، 01	Ravi's A/c Dr. To Cash's A/c To Bill Payable A/c (روی کو نقد اور منظوری دی)		18,000 3,000	15,000
میں، 04	Bills Payable A/c Dr. Interest A/c Dr. To Ravi A/c (پرانا بل کو منسون کر تجدید پر 100 روپے کا سود)		15,000 300	15,300
میں، 04	Ravi A/c Dr. To Bills Payable A/c To Cash A/c (نیا بل منظور کیا اور سود نقد دیا)		15,300 3,000	15,000
میں، 07، جولائی	Bills Payable A/c Dr. To Bank A/c (نیا بل ادا نیکی کی تاریخ پر ادا کیا)		15,000	15,000

8.10 بل کی قبل از وقت ادا نگی (Retiring of the Bill)

بہت سے ایسے موقع پیش آتے ہیں جب بل آف ایچنچ کی ادا نگی کا انتظام اس کی ادا نگی کی تاریخ سے پہلے مرتب اور مرتب الیہ کی مرضی سے ہو جاتا ہے۔ ایسا تب ہوتا ہے جب بل کے منظور کنندہ کے پاس بل کی رقم کی ادا نگی کے لیے اتنا پیسہ (فائز) ہوتا ہے کہ وہ ادا نگی کی تاریخ سے قبل بل کی ادا نگی کر دے۔ اس صورت میں وہ بل کے حامل سے واجب الادا تاریخ یا ادا نگی کی تاریخ سے قبل رقم کی ادا نگی کے لیے درخواست کرتا ہے اور جب حامل ایسا کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ بل قبل از وقت ادا کر دیا گیا۔

مقررہ مدد کے اختتام سے قبل بل کے ادا ہو جانے سے بل کے لین دین سے متعلق سب معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ بل کی قبل از وقت ادا نگی کو بڑھاوا دینے کی غرض سے بل کا حامل کچھ رعایت یا چھوٹ (Rebate) دیتا ہے جس کا حساب بل کی قبل از وقت ادا نگی کی تاریخ اور واجب الادا تاریخ کے بینکی مدد پر نکالا جاتا ہے۔

بل کی قبل از وقت ادا نگی کے کھاتہ داری عمل کا بالکل وہی طریقہ ہے جو منظور کنندہ کے ذریعے بل کی واجب الادا تاریخ پر ادا نگی کے لیے عام طور سے اختیار کیا جاتا ہے۔ ان دونوں میں بس اتنا فرق ہے کہ قبل از وقت بل کی ادا نگی کے لیے کچھ رعایت طلب کی جاتی ہے۔ اس کے تحت مندرجہ ذیل جائز اندراج کیے جاتے ہیں۔

حامل کی کتابوں میں

بل کی قبل از وقت ادا نگی اور دی گئی چھوٹ

Cash A/c

Dr.

Rebate on bills A/c

Dr.

To Bills Receivables A/c

مرتب الیہ کی کتابوں میں

Bills Payable A/c

Dr.

Cash A/c

Dr.

To Rebate on Bills A/c

1 جنوری 2010 کو امت نے بلی کو 10,000 روپے کا مال فروخت کیا اور فوراً ہی بلی پر ایک بل تین ماہ کی مدد کا اس رقم کا لکھا بلی نے بل منظور کیا اور اسے امت کو واپس کر دیا۔ 04، مارچ 2010 کو بلی نے اپنی منظوری کو 6% سالانہ چھوٹ کی شرح سے قبل از وقت ادا کر دیا۔

**امت کی کتابوں میں
جرٹل**

تاریخ	تفصیلات	کھاتہ نمبر	نام رقم	جمع رقم
2010 جنوری 01	Babli's A/c To Sales A/c (ببلی کو سامان بیجا)	Dr.	10,000	10,000
جنوری 01	Bills Receivable A/c To Babli's A/c (ببلی سے تین ماہ کی منظوری ملی)	Dr.	10,000	10,000
ماрچ 04	Bank A/c Rebate on Bills A/c To Bills Receivable (ببلی نے بل از وقت ادا کیا اور اسے چھوٹ دی گئی)	Dr. Dr.	9,950 50	10,000

ان اندر اجات کو بھی کھاتہ (Ledger) میں مندرج ذیل طریقے سے پوسٹ (Post) کیا جائے گا۔

ببلی کا کھاتہ

Dr.	تاریخ	تفصیل	J.F.	رقم روپے	تاریخ	تفصیل	J.F.	رقم روپے	Cr.
	2010 جنوری 1	سیلز		10,000 <hr/> 10,000	2006 جنوری 06	بل قابل ادا		10,000 <hr/> 10,000	

قابل وصول بل کھاتہ

Dr.	تاریخ	تفصیل	J.F.	رقم روپے	تاریخ	تفصیل	J.F.	رقم روپے	Cr.
	2010 جنوری 01	سیلز		10,000 <hr/> 10,000	2010 ماрچ 04	نقد بل پر نقد چھوٹ		9,950 50 <hr/> 10,000	

بل آف آپسچنچ

385

جزل

تاریخ	تفصیلات	کھاتہ نمبر	نام رقم	جمع رقم
2010 جنوری 01	Purchases A/c Dr. To Amit A/c (امت سے مال خریدا)		10,000	10,000
جنوری 01	Amit's A/c Dr. To Bills Payable A/c (امت کا تین ماہ کے بعد قابل ادا بگی ڈرافٹ منظور کیا)		10,000	10,000
ماрچ 04	Bills Payable A/c Dr. To Cash A/c To Rebate on Bills A/c (بل کی قبل از وقت ادا بگی کی اور چھوٹ ملنی)		10,000	9,950 50

امت کا کھاتہ

Dr.	Cr.						
تاریخ	تفصیل	J.F.	رقم روپے	تاریخ	تفصیل	J.F.	رقم روپے
2010 جنوری 01	Bills Payable		10,000	2006 جنوری 04	Purchases		10,000
			10,000				10,000

قابل ادا بل کھاتہ

Dr.	Cr.						
تاریخ	تفصیل	J.F.	رقم روپے	تاریخ	تفصیل	J.F.	رقم روپے
2010 جنوری 01	Cash		9,950	2010 جنوری 01	Amit		10,000
	Rebate on Bill		50				10,000
			10,000				10,000

8.11 قابل وصول بل اور قابل ادا بل کی کتابیں (Bills Receivable and Bills Payable Books)

جب حاصل شدہ اور منظور شدہ بلوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی کھاتہ داری کتابوں میں ان بلوں کے لین دین سے متعلق جزئی میں اندرج کر کے ان کا ریکارڈ رکھنا بہت چیزیہ اور وقت طلب عمل ہے۔ ان حالات میں یہی مناسب ہے کہ ان کے ریکارڈ کے لیے الگ معاون یا ختمی کتابیں (Subsidiary Books) رکھی جائیں۔ اس طرح قابل وصول بلوں کا اندرج قابل وصول بلوں کی کتاب میں اور قابل ادا بلوں کا اندرج قابل ادا بلوں کی کتاب میں کیا جائے۔ بلوں کے لین دین کے ریکارڈ کے لیے معاون یا ختمی کتابیں رکھنے کا مقصد نقد یا خریداریوں کی دوسری معاون کتابیں رکھنے جیسا ہی ہے۔ ان دونوں معاون کتابوں کے ضمن میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ان میں صرف بل کو بنانے اور منظور کرنے سے متعلق لین دین ہی لکھے جاتے ہیں جبکہ بل سے متعلق دوسرے لین دین جیسے بل بخٹانا، بیچان، قبل از وقت ادا بل، اور تجدید وغیرہ کا صرف سرسری حوالہ ہوتا ہے جبکہ ان سے متعلق اندرج جزئی میں ہی کیا جاتا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ان بلوں کی ادا بل سے متعلق اندرج کوپیش بک میں ہی دکھایا جاتا ہے۔

8.11.1 قابل وصول بل کتاب (Bills Receivable Book)

قابل وصول بل کتاب کو مرتب کے ذریعے وصول کردہ با قاعدہ طور پر منظور شدہ بل سے متعلق اطلاعات کے خلاصہ کے طور پر ترتیب دیا گیا ہے۔ بل سے متعلق تمام تفصیلات، تاریخ، منظور کنندہ کا نام، رقم، مدت، مقام ادا بل وغیرہ کو مستقبل کے حوالے کے لیے قابل وصول بل کتاب میں درج کیا جاتا ہے۔

قابل وصول بل کتاب کا خاکہ نیچے شکل 8.3 میں دیا گیا ہے:

بل کا نمبر	بل کی تاریخ کی تاریخ	وصول ہونے کی تاریخ	بل کی تاریخ	کس سے وصول کیا گیا	مرتب	منظور کنندہ	کہاں قابل ادا ہے	ادا بل کی مدت	ادا بل کی تاریخ	لیجر فولیو	رقم	کیش بک صفحہ نمبر	کیفیت

شکل 8.3: قابل وصول بل کتاب کا خاکہ

دیگر معاون کتابوں کی طرح قابل وصول بل کتاب کا بھی میعادی طور پر میزان کیا جاتا ہے۔ اس ٹول (کل میزان) سے قبل وصول بل کھاتہ کو ڈبٹ کر دیا جاتا ہے جبکہ ہر دین دار کا شخصی کھاتہ جس سے بل حاصل کیا ہے، ہی کھاتے میں کریڈٹ کر دیا جاتا ہے۔ قابل وصول بل کھاتہ، انشا کا ایک کھاتہ ہے۔ اس کا ہمیشہ ڈبٹ بقايا ہوتا ہے۔ کسی بھی تاریخ کو اس بقايا کا مطلب ہے کہ قابل وصول بل کی رقم کی ابھی تاریخ ادا یگی نہیں آئی اور وہ ہاتھ میں ہے۔

8.11.2 قابل ادا بل کتاب (Bills Payable Book)

قابل ادا بل کتاب بھی قابل وصول بل کتاب کی طرح تیار کی جاتی ہے۔ اس کتاب کو منظور کنندہ شخص یا فریق کے منظور شدہ بل سے متعلق تمام تفصیلات جنہیں ضرورت کے وقت مستقبل میں کام آنے کے لیے محفوظ رکھا جاتا ہے، کو ریکارڈ کے لیے رکھا جاتا ہے۔

بل قابل ادا کتاب بھی قابل وصول بل کتاب کی طرح تیار کی جاتی ہے۔ اس کتاب میں منظور کنندہ شخص یا فریق کے منظور شدہ بل سے متعلق وہ تمام تفصیلات ریکارڈ کھی جاتی ہیں جو ضرورت کے وقت مستقبل میں کام آتی ہیں۔

بل قابل ادا کا خاکہ شکل نمبر 8.4 میں دیا گیا ہے:

قابل ادا بل کتاب (Bills Payable Book)

کیفیت کا صفحہ نمبر	کیش بک ادا یگی کی تاریخ	رقم	بھی کھاتے کا صفحہ نمبر	ادا یگی کی تاریخ	مدت	کہاں قابل ادا ہے	یا یہندہ مرتب الیہ	مرتب	کس کو دیا گیا	بل کی تاریخ	بل کا نمبر

شکل 8.4 قابل ادا بل کا نمونہ

ان کتابوں سے ہر اس لین دار (Creditor) کے کھاتہ کے ڈبٹ میں پوسٹنگ کی جاتی ہے جسے منظوری دے دی گئی ہوا اور کتاب کے میعادی (Periodical) میزان سے قابل ادا بل کھاتہ کو کریڈٹ کر دیا جاتا ہے۔ قابل ادا بل کھاتے کا بقايا (اگر ہوتا) ہمیشہ کریڈٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ بل کے منظور کنندہ کی بل کے منظور کیے جانے کی دین داری کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کھاتے کا کریڈٹ بقايا کسی بھی مقررہ تاریخ پر وہی ہونا چاہئے جو قابل ادا بل کتاب میں دیے گئے قابل ادا بلوں کا میزان ہے، جواب تک ادا یگی کے لیے وصول نہیں ہوئے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مندرجہ ذیل لین دین کا اندر اس طرح قابل وصول بل اور قابل ادا بل کی کتابوں میں کیا گیا ہے اور ہی کھاتوں میں کس طرح پوسٹ کیا گیا ہے۔

(Bills Receivable Book)

نمبر	بلاک	بیکاری کی تاریخ	تاریخ صوری	کس سے حاصل	مرتب	مشورہ کرنده	کہاں قابل ادا	اویگی کی مدت	بیکاری کی تاریخ	تم روپے	کیش بک	کیفیت
								صیغہ	تاریخ	صیغہ	صیغہ	
01	07	2006, جون, 04	2006	S.Mitra	Self	S.Mitra	Bombay	۱۳	۱۷، اپریل	1,32,500		
02	15	2006, جون, 14	R.Rakesh	Do	R.Rakesh	Amritsar	۱۱	۱۷، جون	25,500			
03	21	2006, جون, 21	G.Ghosh	Do	G.Ghosh	Calcutta	۱۲	۲۴، مارچ	31,000			
04	22	2006, جون, 17	D.Dhiman	D.Dhiman	A.Vakil	Bombay	۱۳	۲۰، اپریل	20,000			
05	23	2006, جون, 23	D.Kanga	Self	K.Kanga	Bangalore	۱۱	۲۶، جون	30,000			
06	27	2006, جون, 20	C.Shah	M.Meyers	P.Parson	Madras	۱۲	۲۳، مارچ	35,000			
								ٹھنڈا	تم روپے	2,73,500		

(Bills Payable Book)

نمبر	بلاک	بیکاری کی تاریخ	کس کو دیا گیا	بیانہ	مرتب	کہاں ادا کیا گیا	اویگی کی مدت	بیکاری کی تاریخ	تم روپے	کیش بک	کیفیت	
							صیغہ	تاریخ	صیغہ	صیغہ		
01	09	2006, جون, 09	S.Warden	S.Warden	-	-	۱۲	۳۱، اپریل	2006	97,000		
02	13	2006, جون, 13	Pradhan	Pradhan	-	-	۱۳	۱۶، اپریل		39,000		
03	18	2006, جون, 18	S.Parkar	S.Parker	-	-	۱۲	۲۱، مارچ		42,000		
04	31	2006, جون, 31	A.Roberts	A.Robert	-	-	۱	۰۳، مارچ		21,000		
							کل		Rs. 1,99,500			

بل آف آپچیخ

389

2006

- (i) 07، جنوری ایس۔ متاسے، 4 جنوری کا 32,000 روپے کا باقاعدہ طور پر منظور شدہ بل تین ماہ بعد کی مدت کا حاصل ہوا۔
- (ii) 09، جنوری ایس۔ وارڈن کا دو ماہ کی مدت کا 9,70,000 روپے کا ڈرافٹ منظور ہوا۔
- (iii) 13، جنوری پرداhan نے تاجر پر تین ماہ کی مدت کا ایک بل لکھا اور اسے 39,000 روپے میں منظور کر لیا۔
- (iv) 14، جنوری آر۔ رائش پر ایک ماہ کی مدت کا ایک بل 25,000 روپے کا لکھا اور اس نے دوسرے روز اسے منظور کر لیا۔
- (v) 18، جنوری ایس پارکر کو دو ماہ کی مدت پر 42,000 روپے کی منظوری دی۔
- (vi) 21، جنوری جی۔ گھوش نے 31,000 روپے کی دو ماہ کی مدت کے لیے اس کی منظور حاصل کر لی۔
- (vii) 22، جنوری ڈی۔ ڈیمن سے اے۔ وکیل کی منظوری 20,000 روپے کے لیے تین ماہ کی مدت (17 جنوری سے) پر حاصل کی۔
- (viii) 23، جنوری کے۔ گنگا نے ایک ماہ کی مدت کا میرا 30,000 روپے کا ایک ڈرافٹ منظور کیا۔
- (ix) 27، جنوری سی۔ شاہ سے 35,000 روپے کا مل باتارخ 20 جنوری دو ماہ کی مدت کا حاصل کیا جو پی۔ پارس کے ذریعے منظور کیا گیا اور ایم۔ میرس کے ذریعے لکھا گیا۔
- (x) 31 جنوری دو ماہ کی مدت کی 21,500 روپے کی منظوری اے۔ رو برٹس کو دی۔ دی گئی، اندر اجات کی پوسٹنگ مندرجہ ذیل ہے:

ایس مترا کا کھاتہ

Dr.								Cr.
تاریخ	تفصیل	J.F.	رقم روپے	تاریخ	تفصیل	J.F.	رقم روپے	
2006 1، جنوری	Sales		1,32,500	2006 7، جنوری	Bills Receivable		13,32,500	
			1,32,500				13,32,500	

آر۔ رائیش کا کھانہ

Dr.	تاریخ	تفصیل	J.F.	رقم روپے	تاریخ	تفصیل	J.F.	رقم روپے
	2006 جنوری 14	Sales		25,000	2006 جنوری 15	Bills Receivable		25,000
				25,000				25,000

جی۔ گھوٹ کا کھانہ

Dr.	تاریخ	تفصیل	J.F.	رقم روپے	تاریخ	تفصیل	J.F.	رقم روپے
	2006 جنوری 21	Sales		31,000	2006 جولائی 21	Bills Receivable		31,000
				31,000				31,000

ڈی۔ ڈیمن کا کھانہ

Dr.	تاریخ	تفصیل	J.F.	رقم روپے	تاریخ	تفصیل	J.F.	رقم روپے
	2006 جنوری 17	Sales		20,000	2006 جنوری 22	Bills Receivable		20,000
				20,000				20,000

کے۔ کنگ کا کھانہ

Dr.	تاریخ	تفصیل	J.F.	رقم روپے	تاریخ	تفصیل	J.F.	رقم روپے
	2006 جنوری 23	Sales		30,000	2006 جنوری 23	Bills Receivable		30,000
				30,000				30,000

سی - شاہ کا کھاتہ

Dr.	تفصيل	J.F.	رقم رُوپے	تاريخ	تفصيل	J.F.	رقم رُوپے	Cr.
2006 جنوری، 20	Sales		35,000	2006 جنوری، 27	Bills Receivable		35,000	
			35,000				35,000	

قابل وصول بل کھاتہ

Dr.	تاریخ	تفصیل	J.F.	رقم روپے	تاریخ	تفصیل	J.F.	رقم روپے	Cr.
	2006 جنوری، 31	Sundries		2,73,500	2006 جنوری، 31	Bills Receivable		2,73,500	
				2,73,500				2,73,500	

ایس وارڈن کا کھاتہ

Dr.	تاریخ	تفصیل	J.F.	رقم روپے	تاریخ	تفصیل	J.F.	رقم روپے	Cr.
2006 09، جنوری	Bills Payable			97,000	2006 9، جنوری	Purchases		97,000	
				97,000				97,000	

پردهاں کا کھاتہ

Dr.	تاریخ	تفصیل	J.F.	رقم روپے	تاریخ	تفصیل	J.F.	رقم روپے
2006 جنوری، 13	Bills Payable			39,000	2006 جنوری، 13	Purchases		39,000
				39,000				39,000

ایس۔ پارکر کا کھاتہ

Dr.							Cr.
تاریخ	تفصیل	J.F.	رقم روپے	تاریخ	تفصیل	J.F.	رقم روپے
2006 18، جنوری	Bills Payable		42,000 42,000	2006 18، جنوری	Purchases		42,000 42,000

اے۔ رو بڑ کا کھاتہ

Dr.							Cr.
تاریخ	تفصیل	J.F.	رقم روپے	تاریخ	تفصیل	J.F.	رقم روپے
2006 31، جنوری	Bills Payable		21,500 21,500	2006 31، جنوری	Purchases		21,500 21,500

قابل ادائیں کا کھاتہ

Dr.							Cr.
تاریخ	تفصیل	J.F.	رقم روپے	تاریخ	تفصیل	J.F.	رقم روپے
2006 01، جنوری	Balance c/d		1,99,500 1,99,500	2006 4، جنوری	Sundries' Receivable		1,99,500 1,99,500

نوٹ: بل کے لکھنے یا منظور کرنے کو ہمیشہ کسی فروخت یا خرید کے سودے کا پس منظر خیال کیا جاتا ہے۔ لہذا دونوں کتابوں میں دین دار اور لین دار کے بل کے سودوں کو پوسٹ کرنے (Post) کے لیے یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ خرید اور فروخت کے ضروری اندر اجات باضابطہ ریکارڈ کر لیے گئے ہیں۔

مثال 4

15 جنوری 2006 کو سچن نے 30,000 روپے کا مال نارائے کو بیچا اور اس پر ایک بل تین ماہ کی مدت کا لکھا۔ نارائے نے اس بل کو منظور کر لیا۔ 31 جنوری 2006 کو سچن نے یہ بل اپنے بینک سے 29,250 روپے میں بخنا لیا۔ اداگی کی تاریخ پر بل مسترد ہو گیا۔ نارائے 10,500 روپے نقد دینے پر راضی ہو گیا جس میں 500 روپے کا سود شامل تھا اور اس کے ساتھ ایک نیا بل بقیہ 20,000 روپے کا دو ماہ

بل آف ایچنچ

393

کی مدت کے لیے منظور کر لیا۔ چجن نے اس نئے بل کا بیچان اپنے ایک لین دار کپل کے حق میں 20,800 روپے کے قرض کو ادا کرنے میں کیا۔ نارائن نے اس بل کی ادائیگی مقررہ مدت پر کر دی۔ چجن اور نارائن کی کتابوں میں ضروری جزئی اندر ارجات کریں۔

حل

چجن کی کتابیں جزئی

تاریخ	تفصیلات	کھاتہ نمبر	نام رقم	جمع رقم
2006 15 جنوری	Narain A/c To Sales A/c (نارائن کو مال بیچا گیا)	Dr.	30,000	30,000
15 جنوری	Bill's Receivable A/c To Narain's A/c (بنی کی منظوری ملی)	Dr.	30,000	30,000
31 جنوری	Bank A/c Discount A/c To Bills Receivable A/c (نارائن کی منظوری کو بینک سے بھنا یا)	Dr. Dr.	29,250 750	30,000
19 اپریل	Narain's A/c To Bank A/c To Interest A/c (نارائن کی منظوری مسترد ہو گئی)	Dr. Dr.	30,500	30,000 500
19 اپریل	Bank A/c Bills Receivable A/c To Narain's A/c (نارائن سے نقد حاصل ہوا اور بقیرم کا ایک نیا بل منظور ہوا)	Dr. Dr.	10,500 20,000	30,500
19 اپریل	Kapil A/c To Bills Receivable A/c To Discount Received A/c (نارائن کی منظوری کا بیچان کپل کو کیا اور اُس نے چھوٹ دی)	Dr.	20,800	20,000 800

نارائے کی کتابیں
جزل

تاریخ	تفصیلات	کھاتہ نمبر	نام رقم	جمع رقم
2006 15 جنوری	Purchases A/c Dr. To Sachin A/c (سچن سے مال خریدا)		30,000	30,000
15 جنوری	Sachin's A/c Dr. To Bills Payable A/c (سچن کا ڈرافت منظور کیا)		30,000	30,000
19 جنوری	Bills Payable A/c Dr. Interest A/c Dr. To Sachin A/c (پانا بل مسترد ہوا اور سچن نے سود وصول کیا)		30,000 50	30,500
19 اپریل	Sachin A/c Dr. To Bank A/c To Bill Payable A/c (سچن کو لفڑادا کیا اور نیا بل، قبیر قم کا منظور کیا)		30,500	10,500 20,000
22 جون	Bills Payable A/c Dr. To Bank A/c (ادائیگی کی تاریخ پر نیا بل ادا کر دیا)		20,000	20,000

مثال 5

30 اکتوبر 2005 کو اشوك نے بیشن کو 14,000 روپے کا مال بیچا اور تین مل کرھے۔ پہلا بل 2,000 روپے کا دو ماہ کی مدت کے لیے، دوسرا بل 4,000 روپے کا تین ماہ کی مدت کے لیے اور تیسرا بل 8,000 روپے کا چار ماہ کی مدت کے لیے۔ اشوك نے پہلا بل ادائیگی کی تاریخ تک اپنے پاس رکھا۔ اشوك نے دوسرے بل کا بیچان اپنے لین دار چیتن کے حق میں کیا۔ 03 دسمبر 2005 کو اس نے تیسرا بل کی سالانہ در سے بخنا لیا۔ پہلے اور دوسرے بل کی ادائیگی واجب الادا تاریخ پر کر دی گئی جبکہ تیسرا بل مسترد ہو گیا اور بینک نے ناظری اخراجات (Noting Charges) کے طور پر 50 روپے ادا کیے۔ 03 مارچ 2006 کو بیشن نے 4000 روپے اور ناظری

بل آف ایچنج

395

اخراجات نقد ادا کیے اور 100 روپے کے سوسمیت بقایا رقم کا ایک نیا بل دو ماہ کی مدت کا منظور کیا۔ بشن نے اس نئے بل کی ادائیگی مقررہ تاریخ پر کر دی۔

اشوک اور بشن کی کتابوں میں جزئی اندر اخراجات کریں اور بشن کا حمایہ اشوک کی کتابوں میں اور اشوک کا حمایہ بشن کی کتابوں میں بنائیں۔

اشوک کی کتابیں

جزئی

تاریخ	تفصیلات	کھاتہ نمبر	نام رقم	جمع رقم
2005 اکتوبر 30	Bishan's A/c To Sales A/c (بشن کو ادھار مال بیچا)	Dr.	14,000	14,000
اکتوبر 30	Bills Receivable A/c To Bishan's A/c (بشن کی تین منظوریاں میں پہلی 2000 روپے کی دو ماہ کے لیے، دوسرا 4,000 روپے کی تین ماہ کے لیے اور تیسرا 8,000 روپے کی چار ماہ کی مدت کے لیے)	Dr.	14,000	14,000
اکتوبر 30	Chetan's A/c To Bills Receivable A/c (دوسرے بل کا بیچان لیں دار چیتن کی حق میں کیا)	Dr.	4,000	4,000
دسمبر 03	Bank A/c Discount A/c To Bills Receivable A/c (تیسرا بل 12% سالانہ کی درست بھٹکا لیا گیا)	Dr. Dr.	7,760 240	8,000
2006 جنوری 02	Bank A/c To Bills Receivable (بشن کی پہلی منظوری ادائیگی کی تاریخ پر مل گئی)	Dr.	2,000	2,000
ماਰچ 03	Bishan's A/c To Bank A/c (بشن کی تیسرا منظوری مسترد ہو گئی اور بینک نے 50 روپے کے ناظری اخراجات ادا کیے)	Dr.	8,050	8,050

ماہ 03 مارچ	Cash A/c To Bishan's A/c (بشن سے نقد وصول ہوئے)	Dr.		4,050	4050
ماہ 03 مارچ	Bishan's A/c To Interest A/c (بشن سے سودا گیا)	Dr.		100	100
ماہ 03 مارچ	Bills Receivable A/c To Bishan's A/c (بشن کی نئی منظوری دو ماہ کے لیے)	Dr.		4,100	4,100
ماہ 06 جنوری	Bank A/c To Bills Receivable A/c (ادامگی کی تاریخ پر رقم وصول ہوئی)	Dr.		4,100	4,100

بشن کا کھانہ

Dr.								Cr.
تاریخ	تفصیلات	J.F.	رقم روپے	تاریخ	تفصیلات	J.F.	رقم روپے	
2005 اکتوبر 30	Sales		14,000	2005 اکتوبر 30	Bills		14,000	
2006 مارچ 03	Bank		8,050	2006 مارچ 03	Cash		4,050	
ماہ 03 مارچ	Interest		100	ماہ 03 مارچ	Bills Receivable		4,100	
			22,150				22,150	

بشن کی کتابیں
جزل

تاریخ	تفصیلات	کھاتہ نمبر	نام (ڈیٹ) رقم	جمع (کریڈٹ) رقم
2005 اکتوبر 30	Purchases A/c To Ashok's A/c (اشوک سے ادھار مال خریدا)	Dr.	14,000	14,000
اکتوبر 30	Ashok's A/c To Bills Payable A/c (اشوک کے تین ڈرافٹ منظور کیے، پہلا 2,000 روپے کا دو ماہ کی مدت کے لیے دوسرا 4,000 روپے کا تین ماہ کے لیے اور تیسرا 8,000 روپے کی چار ماہ کی مدت کے لیے)	Dr.	14,000	14,000
2006 جنوری 02	Bill Payable A/c To Bank Receivable A/c (اشوک کے حق میں دی گئی 2,000 روپے کی پہلی منظوری ادا کر دی گئی)	Dr.	2,000	2,000
مارچ 03	Bills Payable A/c Noting Charges A/c To Ashoka's A/c (اشوک کے حق میں دی گئی تیسرا منظوری مسترد ہو گئی اور ناظری اخراجات 50 روپے تھے)	Dr. Dr.	8,050 50	8,050
مارچ 03	Ashok's A/c To Cash A/c (اشوک نے 4,000 روپے اور ناظری اخراجات ادا کیے)	Dr.	4,050	4,050

03 مارچ	Interest A/c To Cash A/c (اشوک کو سود دیا)	Dr.		100	100
03 مارچ	Ashok's A/c To Bills Payable A/c (اشوک کا نیا ڈرافٹ دو ماہ کے لیے منظور کیا)	Dr.		4,100	4,100
03 مارچ	Bills Payable A/c To Bank A/c (ادائیگی کی تاریخ پر اشوک کو 4,100 روپے ادا کیے)	Dr.		4,100	4,100

اشوک کا کھاتہ

Dr.				Cr.			
تاریخ	تفصیلات	J.F.	رقم روپے	تاریخ	تفصیلات	J.F.	رقم روپے
2005 اکتوبر 30	Bills Payable		14,000	2005 اکتوبر 30	Purchases		14,000
2006 مارچ 03	Cash		4,050	2006 مارچ 03	Bills Payable		8,000
2006 مارچ 03	Bills Payable		4,100	2006 مارچ 09	Noting Charges		50
			22,150		Interest		100
							22,150

مثال 6

آشرواد نے 10,000 روپے کا بل آنف ایچینج تین ماہ کی مدت کا آکرشنک پر لکھا جسے آکرشنک نے 01 جنوری 2006 کو منظور کر لیا۔ آشرواد نے اس بل کا بیچان آکرتی کے حق میں کر دیا۔ ادائیگی کی تاریخ سے پہلے آکرشنک نے آشرواد سے 18% سالانہ در پر تین مزید ماہ کی مدت کے لیے بل کی تجدید کی درخواست کی۔ آشرواد نے آکرشنک کی پیشکش قبول کرتے ہوئے ادائیگی کی تاریخ پر آکرتی کو رقم ادا کر دی۔ آشرواد کی کتابوں میں جٹل اندر ارجات کیجیے۔ یہ مانتے ہوئے کہ دوسرا بل ادائیگی کی تاریخ پر ادا ہو گیا۔

آشرواد کی کتابیں
جزل

تاریخ	تفصیلات	L.F	ڈیٹ رقم	کریڈٹ رقم
2005 جنوری 01	Bills Receivable A/c Dr. To Akarshak's A/c (آکرشک سے بل حاصل ہوا)		10,000	10,000
جنوری 01	Aakarati's A/c Dr. To Bill Receivable A/c (آکرٹی کے بل کا بیجان آکرتی کو کیا)		10,000	10,000
اپریل 04	Aakarshak's A/c Dr. To Aakarti's A/c (آکرشک کا مسئلہ مسترد ہو گیا جو آکرتی کے پاس ہے)		10,000	10,000
اپریل 04	Aakaruti's A/c Dr. To Bank A/c (آکرتی کو قم ادا کر دی گئی)		10,000	10,000
اپریل 04	Aakarshak's A/c Dr. To Interest A/c (آکرشک سے 10,000 روپے پر 18% کی سالانہ درست تین ماہ کا سود لینا ہے)		450	450
اپریل 04	Bills Receivable A/c Dr. To Akarshak's A/c (آکرشک سے نیا بل حاصل ہوا)		10,450	10,450
جولائی 07	Bank A/c Dr. To Bills Receivable A/c (تجدید شدہ بل کی قم وصول ہوئی)		10,450	10,450

مثال 7

انکت، بکتا کا 6,000 روپے کا قرض دار ہے۔ 01، اپریل 2006 کو انکت نے اس قم کا ایک اقراری نوٹ تین ماہ کی مدت کا نکتا کو دیا جو اس نے اپنے بینک سے 5,760 روپے میں بھنا لیا۔ ادا یگی کی تاریخ پر مسئلہ مسترد ہو گیا اور بینک نے 15 روپے کے سود سمیت ایک نیا بل منظور کر لیا۔ یہ بل دو ماہ کی مدت کا تھا جو ادا یگی کی تاریخ پر دوبار مسترد ہو گیا۔ بکتا نے 15 روپے کے ناظری اخراجات ادا کیے۔

بکٹا کی کتابوں میں جریل اندر ارجات کریں۔

حل

بکٹا کی کتابیں جریل

تاریخ	تفصیلات	کھاتہ نمبر	نام رقم	جمع رقم
2005 اپریل 01	Bills Receivable A/c To Ankit A/c (انکٹ کا اقراری نوٹ حاصل ہوا)	Dr.	6,000	6,000
اپریل 01	Bank A/c Discount A/c (انکٹ کا اقراری نوٹ 5,760 روپے کا ہٹھنا لیا گیا)	Dr. Dr.	5,760 240	6,000
جولائی 04	Ankit's A/c To Banke A/c (انکٹ کا اقراری نوٹ مسترد ہو گیا اور ناظری اخراجات بل کی رقم سمیت بینک کو دینے ہیں)	Dr.	6,015	6,015
جولائی 04	Cash A/c To Ankit's A/c (انکٹ سے رقم وصول ہوئی)	Dr.	2,000	2,000
جولائی 04	Ankit's A/c To Interest A/c (دوسرے بل کا سودا انکٹ سے لینا ہے)	Dr.	100	100
جولائی 04	Bills Receivable A/c To Ankit's A/c (انکٹ کی دو ماہ کی منظوری ملی)	Dr.	4,115	4,115
تمبر 07	Ankit's A/c To Bills Receivable A/c (انکٹ کی منظوری مسترد ہو گئی)	Dr.	4,115	4,115
تمبر 07	Ankit's A/c To Cash A/c (ناظری اخراجات ادا کیے جو انکٹ سے لینے ہیں)	Dr.	15	15

بل آف ایچیجن

401

مثال 8

مئی 2005 کو روہت نے 6000 روپے کا ایک اقراری نوٹ تین ماہ کی مدت کا روہت کو بھیجا۔ 04 مئی کو روہت نے اسے 18% سالانہ کی در سے بینک سے بھٹا لیا۔ ادا بیگ کی تاریخ پر بل مسترد ہو گیا اور بینک نے 10 روپے کے ناظری اخراجات ادا کیے۔ روہت نے 2,130 روپے نقد (جس میں 130 روپے میں ناظری اخراجات اور سود شامل ہے) اور ایک دوسرا اقراری نوٹ 4,000 روپے کا دو ماہ کی مدت کے لیے منظور کر لیا۔ ادا بیگ کی تاریخ پر روہت نے روہت سے تین مزید ماہ کی مدت کے لیے بل کی تجدید کی درخواست کی۔ روہت نے اس شرط پر کہ روہت کو 200 روپے کا سود نقد ادا کرے، روہت کی درخواست مان لی۔ یہ آخری بل تاریخ ادا بیگ پر ادا ہو گیا۔ روہت اور روہت کی کتابوں میں جریل اندر اخراجات کریں۔

حل

بکتا کی کتابیں جریل

تاریخ	تفصیلات	کھاتہ نمبر	ڈیبت رقم	کریڈٹ رقم
2005 مئی 01	Rohit's A/c Dr. To Bills Payable A/c (روہت کو اقراری نوٹ بھیجا)		6,000	6,000
اگست 04	Bills Payable A/c Dr. Noting Charges A/c Dr. (اقراری نوٹ مسترد ہو گیا اور ناظری اخراجات 10 روپے روہت کو دینے ہیں)		6,000 10	6,010
اگست 04	Interest A/c Dr. To Rohit's A/c (اقراری نوٹ کی تجدید پر روہت کو سود دینا ہے)		120	120
اگست 04	Rohit's A/c Dr. To Bills Payable To Cash A/c (2,130 روپے نقد اور 4,000 روپے کا اقراری نوٹ روہت کو بھیجا)		6,130	4,000 2,130

107 اکتوبر	Bill Payable A/c To Rohit's A/c (ادائیگی کی تاریخ پر بل منسون ہو گیا)	Dr.		4,000	4,000
107 اکتوبر	Interest A/c To Rohit's A/c (بل کی تجدید پر روحت کو سود کی رقم دینی ہے)	Dr.		200	200
107 اکتوبر	Rohit's A/c To Cash To Bills Payable A/c (نئی مظہوری اور نقد روحت کو بھیجا)	Dr.		4,200	200 4,000
2006 جنوری 10	Bills Payable A/c To Cash A/c (ادائیگی کی تاریخ پر رقم ادا کی گئی)	Dr.		4,000	4,000

روحت کی کتابیں
جڑل

تاریخ	تفصیلات	L.F	ذیش رقم	کریڈٹ رقم
2005 مئی 01	Bills Receivable A/c To Mohit's A/c (اس تاریخ پر موهت کا اقراری نوٹ حاصل ہوا)	Dr.	6,000	6,000
مئی 04	Bank's A/c Discount A/c To Bills Receivable A/c (موہت کے 6,000 روپے کے تین ماہ کے اقراری نوٹ کو 18% سالانہ درست سے بھنا لیا)	Dr. Dr.	5,730 270	6,000
اگسٹ 04	Mohit's A/c To Bank's A/c (موہت کا اقراری نوٹ مسترد ہو گیا اور 10 روپے کے ناظری اخراجات بینک نے ادا کیے)	Dr.	6,010	6,010

بل آف ایچنچ

403

04 اگست	Mohit's A/c To Interest A/c (سود کی طے شدہ رقم جو موبہت سے لینی ہے)	Dr.		120	120
04 اگست	Cash A/c Bills Receivable A/c To Mohit's A/c (موبہت سے نقد اور اقراری نوٹ حاصل ہوا)	Dr. Dr.		2,130 4,000	6,130
07 اکتوبر	Mohit's A/c To Bills Receivable A/c (آج ادا یگی کابل منسون ہو گیا)	Dr.		4,000	4,000
07 اکتوبر	Mohit's A/c To Interest A/c (موبہت سے سود کی رقم لینی ہے)	Dr.		200	200
07 اکتوبر	Cash A/c Bills Receivable A/c To Mohit's A/c (موبہت سے نقد اور اقراری نوٹ حاصل ہوا)	Dr. Dr.		200 4,000	4,200
2006 10 جنوری	Cash/Bank A/c To Bills Receivable A/c (ادا یگی کی تاریخ پر رقم مل گئی)	Dr.		4,000	4,000

اپنے فہم کی جانچ کریں-II

- (i) بل آف ایچنچ ایک _____ دستاویز ہے۔
- (ii) بل آف ایچنچ _____ کے ذریعے _____ پر لکھا جاتا ہے۔
- (iii) اقراری نوٹ _____ کے ذریعے _____ کے حق میں لکھا جاتا ہے۔
- (iv) بل آف ایچنچ میں _____ فریق ہوتے ہیں۔
- (v) اقراری نوٹ میں _____ فریق ہوتے ہیں۔

- (vi) بل آف ایچنچ کی صورت میں مرتب اور _____ ایک فریق نہیں ہو سکتے۔
 (vii) بل آف ایچنچ کو ہندوستانی زبان میں _____ کہا جاتا ہے۔
 (viii) بل آف ایچنچ کی _____ کی تاریخ کا حساب لگانے کے لیے اس میں _____ رعایت کے دن جوڑ دیے جاتے ہیں۔

8.12 امدادی بل (Accommodation Bills)

عام طور سے بل آف ایچنچ اور اقراری نوٹ اشیاء کے حقیقی مال لین دین کے عوض میں لکھے یا بنائے جاتے ہیں یعنی بل آف ایچنچ کی صورت میں مرتب الیہ کے ذریعے مرتب کو تجارتی قرض چکانے کے لیے منظوری دی جاتی ہے اور یہ بل تجارتی بل (Trade Bill) کہلاتے ہیں۔ چونکہ یہ بل حقیقی تجارتی لین۔ دین کے ذریعے وجود میں آتے ہیں، ان کی مالیت (Values) وصول ہوتی ہے اور یہ قابل عمل درآمد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر انکلت بشن سے سامان خریدتا ہے وہ بشن کا ڈرافٹ منظور کر کے رقم کی ادائیگی ملتی کر سکتا ہے جبکہ بشن اگر چاہے تو انکلت کی منظوری کو بینک سے بھٹک کر فوراً رقم حاصل کر سکتا ہے لیکن اشیاء کے تجارتی لین دین کے علاوہ بھی بل آف ایچنچ اور اقراری نوٹ کا استعمال عارضی طور پر پیسہ یا فنڈ (Funds) حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایسے بل کو امدادی بل کہا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ بل مرتب الیہ کے ذریعے مرتب کو مدد دینے کے لیے منظور کیے جاتے ہیں۔ اس لیے مرتب الیہ اس میں امداد دینے والا فریق (Accommodation Party) اور مرتب امداد پانے والا فریق کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر راج نے پال پر 10,000 روپے کا بل 01 اپریل 2006 کو تین ماہ کی مدد کے لیے لکھا جسے پال نے راج کو مدد دینے کے لیے منظور کر لیا۔ راج نے اسی تاریخ پر بل کو 6% سالانہ در سے بینک سے بھٹک لیا۔ ادائیگی سے ایک دن پہلے تاریخ راج نے بل کی رقم کی ادائیگی پال کو کرداری۔ پال نے ادائیگی کی تاریخ پر رقم ادا کر دی۔ راج اور پال کی کتابوں میں مندرجہ ذیل اندر راجات ہوں گی۔

راج کی کتاب

جزل

تاریخ	تفصیلات	L.F	ڈیبت رقم	کریڈٹ رقم
2006 اپریل 01	Bills Receivable A/c To Pal's A/c (پال کی منظوری حاصل ہوئی)	Dr.	10,000	10,000

بل آف آپچنج

405

01 اپریل	Bank's A/c Discount A/c To Bills Receivable A/c (پال کی منظوری کو بھنا لیا)	Dr. Dr.		9,850 150	10,000
03 جولائی	Pal's A/c To Bank A/c (پال کو امدادی بل کی رقم ادا کر دی)	Dr.		10,000	10,000

پال کی کتابیں
جڑل

تاریخ	تفصیلات	L.F	ڈیبٹ رقم	کریڈٹ رقم
01 اپریل 2005	Raj's A/c To Bills Payable A/c (راج کے ذریعے لکھے گئے امدادی بل کی منظوری)	Dr.	10,000	10,000
03 جولائی	Bank's A/c To Raj's A/c (راج سے رقم وصول ہوئی)	Dr.	10,000	10,000
03 جولائی	Bills Payable A/c To Bank A/c (امدادی بل کی رقم ادا ہوئی)	Dr.	10,000	10,000

کبھی بھی امدادی فریقین آپسی مفاد کی غرض سے ایک امدادی بل کے ذریعے پیسہ یا نہ حاصل کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ ایسا مندرجہ ذیل دو صورتوں میں کیا جاسکتا ہے۔

(a) مرتب اور مرتب الیہ حاصل شدہ رقم کو ایک طے شدہ تناسب میں بانٹ لیتے ہیں

(b) ہر ایک بل بنا تا یا لکھتا ہے اور بل کو منظور کرتا ہے

صورت (a) میں چھوٹ یا کٹوتی کی رقم مرتب اور مرتب الیہ کے درمیان اُسی تناسب میں بانٹتی ہے جس میں انہوں نے حاصل شدہ رقم بانٹی ہے لیکن صورت (b) میں چھوٹ یا کٹوتی نہیں بانٹی جاتی کیونکہ ہر ایک فریق بناۓ گئے بل کی پوری حاصل

شدہ رقم اور بھٹانے پر اُس کی کٹوئی اپنے پاس رکھتا ہے۔ اگر دونوں فریق بل کی یکساں رقم اور مدد کا بل لکھتے اور منظور کرتے ہیں تو ادائیگی کی تاریخ پر ہر فریق اپنی منظوری کو اپنے وسائل سے ادا کرتا ہے لیکن اگر وہ ایک ہی بل کی حاصل شدہ رقم کو بازنٹ ہیں تو مرتب ادائیگی کی تاریخ میں پہلے بھایارم کو مرتب الیہ کو دے دیتا ہے تاکہ مرتب الیہ اپنی منظوری کو چھپی طرح ادا کر سکے۔ مندرجہ بالا بحث کی بنیاد پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ امدادی بل ایسی دستاویز ہے جو فریقین کو عارضی طور پر چھوٹ کے اداروں یا بینکوں سے ضروری بیسے یا فنڈ مہیا کرنے میں مدد دیتا ہے۔

مثال 9

آشوار مدد کو پیسے کی ضرورت تھی۔ 01 اکتوبر 2005 کو آشونے ایک بل 9,000 روپے کا دو مہینے کی مدد کا لکھا۔ مدد نے اُس بل کو منظور کر آشکو و اپک کر دیا۔ اُسی دن آشونے وہ بل بینک سے 5% پر بھٹانا لیا۔ آدمی رقم مدد کو دے دی۔ ادائیگی کی تاریخ پر آشونے ضروری رقم مدد (Mudit) کو بھیج دی جس نے ادائیگی کی تاریخ پر بل ادا کر دیا۔ آشوار مدد کی کتابوں میں اس لین دین کا جائز اندر اج کریں۔

آشک کی کتابیں جزل

تاریخ	تفصیلات	L.F.	ڈیبٹ رقم	کریڈٹ رقم
2005 اکتوبر 01	Bills Receivable A/c Dr. To Mudit's A/c (آپسی امداد کے لیے مدد سے بل حاصل ہوا)		9,000	9,000
اکتوبر 01	Bank's A/c Dr. Discount A/c Dr. To Bills Receivable A/c (بل بینک سے بھٹنا لیا گیا)		8,925 75	9,000
اکتوبر 01	Mudit's A/c Dr. To Cash A/c To Discount A/c (حاصل شدہ رقم کا آدھامیدت کو بھیج دیا)		4,500 4,462.50 37.50	
دسمبر 04	Mudit's A/c Dr. To Cash A/c (آدمی رقم مدد کو بھیج دی تاکہ وہ رقم کی ادائیگی کر کے بل حاصل کر سکے)		4,500	4,500

مددت کی کتابیں
جزل

تاریخ	تفصیلات	L.F	ڈیٹ رقم	کریڈٹ
2005 اکتوبر 01	Ashu's A/c To Bills Payable A/c (آپسی امداد کا بل منظور کیا)	Dr.	9,000	9,000
اکتوبر 01	Cash A/c Discount A/c To Ashu's A/c (بھنائے گئے بل کی آدھی رقم آشوسے ملی)	Dr. Dr.	4462.50 37.50	4,500
دسمبر 04	Cash A/c To Ashu's A/c (آشوکی رقم اُس سے وصول ہوئی)	Dr.	4,500	4,500
دسمبر 05	Bills Payable A/c To Bank A/c (منظوری کی ادائیگی ہوئی)	Dr.	9,000	9,000

مثال 10

روہن اور روہت دونوں کو عارضی امداد کی ضرورت تھی۔ 01 نومبر 2005 کو روہن نے روہت کا ڈرافٹ تین ماہ کی مددت کا اور روہت نے روہن کا 4,000 روپے کا ڈرافٹ تین ماہ کی مددت کا منظور کیا۔ دونوں بلوں کو اپنے اپنے بینک سے 4,800 روپے اور 3,850 روپے میں بھٹنا لیا گیا۔ ادائیگی کی تاریخ سے پہلے روہت نے امدادی بل کے فرق کی رقم 1,000 روپے روہن کو بھیج دی۔ روہن اور روہت نے ادائیگی کی تاریخ پر اپنی منظوری کو ادا کیا۔ روہن اور روہت کی کتابوں میں اس لیں دین کا جزو اندراج کریں۔

روہن کی کتابیں
جزل

تاریخ	تفصیلات	L.F	ڈبٹ رقم	کریڈٹ (جمع) رقم
2005 نومبر 01	Rohit's A/c To Bills Payable A/c (روہن نے امادی بل منظور کیا)	Dr.	5,000	5,000
نومبر 01	Bills Receivable A/c To Rohit's A/c (امادی بل حاصل ہوا)	Dr.	4,000	4,000
نومبر 01	Bank A/c Discount A/c To Bills Receivable A/c (بل بینک سے بخنا لیا گیا)	Dr. Dr.	3,850 150	4,000
فروری 04	Cash A/c To Rohit's A/c (بل کی ادائیگی کے لیے نقد وصول ہوا)	Dr.	1,000	1,000
فروری 04	Bills Payable A/c To Bank A/c (ادائیگی کی تاریخ پر بل ادا کیا گیا)	Dr.	5,000	5,000

روہت کی کتابیں

جزل

تاریخ	تفصیلات	L.F	ڈبیٹ رقم	کریڈٹ (جمع) رقم
2005 نومبر 01	Rohan's A/c To Bills Payable A/c (روہت نے امدادی بل منظور کیا)	Dr.	4,000	4,000
نومبر 01	Bills Receivable A/c To Rohan's A/c (امدادی بل حاصل ہوا)	Dr.	5,000	5,000
نومبر 01	Bank A/c Discount A/c To Bills Receivable A/c (بل پینک سے بھنا لیا گیا)	Dr. Dr.	4,800 200	5,000
فروری 04	Rohan's A/c To Cash A/c (روہن کو نقد بھیجا)	Dr.	1,000	1,000
فروری 04	Bills Payable A/c To Bank A/c (ادائیگی کی تاریخ پر بل ادا کیا)	Dr.	4,000	4,000

اس باب میں متعارف کرائی گئی کلیدی اصطلاحات

- | | |
|--|---|
| (Drawee) مرتب الیہ (b) | (Drawer) مرتب (a) |
| (Bill Receivable) قابل وصول بل (d) | (Payee) یابندہ (c) |
| (Drawing of a Bill) بل کا بنانا یا لکھنا (f) | (Bill Payable) قابل ادا بل (e) |
| (Payment of a Bill) بل کی ادائیگی (h) | (Acceptance of a Bill) بل کی منظوری (g) |

سیکھنے کے مقاصد کے حوالے سے خلاصہ

1۔ بل آف ایکسچینج (Bill of Exchange as an Instrument): بل آف ایکسچینج (Bill of Exchange) کے طور پر (Instrument)، ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے خریدار یا دین دار کو ادھار کے سودے میں فوری طور پر قرض ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اسے فروخت کرنے والے یا لین دار کو اپنی قابل ادائی قسم کے ادائیگی کی ذمے داری تحریری طور پر منظور کر کے مطمئن کرنا ہوتا ہے۔

2۔ بل آف ایکسچینج اور اقراری نوٹ کا مفہوم (Meaning of Bill of Exchange and Promissory Note): بل آف ایکسچینج قرض کی ایک تحریری رسید ہے جو ایک شخص کے ذریعے دوسرے شخص کو دی جاتی ہے اور اس میں ادائیگی کی تمام شرائط و ضوابط شامل ہوتی ہیں۔ اقراری نوٹ دین دار کے ذریعے لین دار کو ایک مقررہ رقم کے ادائیگی کا تحریری وعدہ یا اقرار ہے۔ ان تمام شرائط کے مطابق جو اس میں درج ہوں۔

3۔ بل اور نوٹ میں فرق (Difference Between a Bill and a Note):
(a) بل لین دار کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے اور دین دار کے ذریعے منظور کیا جاتا ہے جبکہ نوٹ دین دار کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے۔
(b) بل میں تین فریق ہوتے ہیں جبکہ نوٹ میں صرف دو فریق ہوتے ہیں۔
(c) بل کو مالی حیثیت (Financial Status) حاصل ہو جائے، اس کے لیے بل کی منظوری ضروری ہے مگر نوٹ بذاتِ خود مالی حیثیت رکھتا ہے۔

4۔ ایک بل کی خصوصیات و فوائد (Features and Advantages of a Bill):
(a) خصوصیات: بل ایک تحریری حکم نامہ ہے جسے لین دار کے ذریعے مرتب کیا جاتا ہے اور دین دار اسے منظور کرتا ہے۔ بل کی ادائیگی یا تو عند الطلب (On Demand) ہوتی ہے یا ایک مقررہ اور متعین وقت پر۔
(b) فوائد: تعلقات کا ماحول، شرائط و پابندیوں کا لیکن، ادھار کی سہولت کا ذریعہ، قطعی ثبوت، آسان منتقلی۔
5۔ لین دار اور دین دار کے لیے بل کی قبول از وقت ادائیگی کے مقاصد اور فوائد کی مختصر وضاحت کریں۔

عملی سوالات (Questions for Practice)

مختصر جوابی سوالات

1۔ عام طور سے استعمال کی جانے والی کن ہی دو طرح کی تحویل پذیر دستاویزوں (Negotiable Instruments) کے نام بتائیے؟

- 2. بل آف ایچنچ اور اقراری نوٹ کے درمیان کوئی دو فرق لکھیے۔
- 3. بل آف ایچنچ کی کوئی چار ضروری خصوصیات بیان کریں۔
- 4. بل آف ایچنچ میں شامل تین فریقوں کے نام بیان کریں۔
- 5. بل آف ایچنچ کی تکمیل مدت (Maturity of a bill of exchange) سے کیا مراد ہے؟
- 6. بل آف ایچنچ کے یاناقابل ادا یگی قرار دیے جانے (Dishonour of a bill of exchange) سے کیا مراد ہے؟
- 7. اقراری نوٹ کے فریقوں کے نام بتائیں۔
- 8. بل آف ایچنچ کی منظوری (Acceptance of a bill of exchange) سے کیا مراد ہے؟
- 9. بل آف ایچنچ کی تصدیق مسٹرڈ (Noting of a bills of exchange) سے کیا مراد ہے؟
- 10. بل آف ایچنچ کی تجدید (Renawal of a bill of exchange) سے کیا مراد ہے؟
- 11. قبل وصول بل کتاب کا نمونہ بتائیے۔
- 12. قبل ادا بل کتاب کا نمونہ بتائیے۔
- 13. بل آف ایچنچ کی قبل از وقت ادا یگی (Retirement of a bill of exchage) سے کیا مراد ہے؟
- 14. چھوٹ یا رعایت (Rebate) کے معنی بتائیں؟
- 15. بل آف ایچنچ کا نمونہ دیجیے؟

طوبیل جوابی سوالات

- 1. بل آف ایچنچ میں ”ادا یگی کا غیر مشروط وعدہ“ ہوتا ہے۔ کیا آپ اس بیان سے متفق ہیں؟
- 2. بل آف ایچنچ کے استرد (Dishonour) اور تصدیق مسٹرڈ (Noting) کے اثرات کو مختصرًا بیان کریں۔
- 3. بل کی ادا یگی کی تاریخ کا حساب لگانے کے طریقہ کارکو مختصرًا بیان کریں اور مثال بھی دیں۔
- 4. بل آف ایچنچ اور اقراری نوٹ میں فرق واضح کریں۔
- 5. لین دار اور دین دار کے لیے بل کی قبل از وقت ادا یگی کے مقاصد اور فوائد کی مختصر وضاحت کریں۔
- 6. قبل وصول بل کتاب رکھنے کے مقاصد اور فوائد کی مختصر وضاحت کریں۔
- 7. قبل ادا بل کتاب رکھنے کے فوائد کی وضاحت کریں اور یہ بھی بیان کریں کہ اس کی پوسٹنگ (Posting) کھاتے میں کس طرح کی جاتی ہے۔

عددی سوالات (Numerical Questions)

- 01 جنوری 2006 کو راؤ نے ریڈی کو 10,000 روپے کا مال فروخت کیا۔ ریڈی نے آدمی رقم کی ادائیگی فوراً کر دی اور بقايا آدمی رقم کے لیے راؤ نے ریڈی پر 30 دن کی مدت کا ایک بل لکھا۔ ریڈی نے بل منظور کیا اور راؤ کو واپس کر دیا۔ ادائیگی کی تاریخ پر راؤ نے بل ریڈی کو پیش کیا اور رقم حاصل کی۔

- 01 جنوری 2006 کو شکر نے پاروٹی سے 8,000 روپے کا مال خریدا اور پاروٹی کے حق میں تین ماہ کی قابل ادا مدت کا ایک اقراری نوت لکھا۔ اقراری نوت کی وجہ لا دا تاریخ پر حکومت ہند نے تحویل پذیر دستاویزی قانون 1881 کے تحت عام چھٹی کا اعلان کر دیا۔ پاروٹی چونکہ بل کی ادائیگی کی تاریخ سے متعلق قوانین سے نادا عق قبھی اس نے بل کو واپس دے دیا جس نے بل کو پیش کیا اور رقم حاصل کی۔ وکیل نے بل کی رقم ملتے ہی فوراً پاروٹی کو دے دی۔ پاروٹی اور شکر کی کتابوں میں ضروری جزئی اندراجات کریں۔

- 05 جنوری 2006 کو وشاں نے 7,000 روپے کا مال منجو کو فروخت کیا اور منجو پر دو ماہ کی مدت کا ایک بل لکھا۔ منجو نے وشاں کے ڈرافٹ کو منظور کر کے وشاں کو واپس کر دیا۔ وشاں نے بل کو 12% سالانہ کی درسے بینک سے بھندا لیا۔ ادائیگی کی تاریخ پر منجو نے اپنی منظوری پوری کی۔ مندرجہ بالا لین دین کا وشاں اور منجو کی کتابوں میں جزئی اندراج کریں۔

- 01 فروری 2006 کو جان نے 15,000 روپے کا مال جمی (Jimmie) سے خریدا۔ اس نے 5,000 روپے کی ادائیگی فوراً چیک سے کر دی اور بقايا رقم کے لیے جمی کے ذریعے لکھا گیا ایک بل منظور کر لیا۔ بل 40 دن کے بعد قابل ادا تھا۔ ادائیگی کی تاریخ سے 05 دن کے بعد قبل ادا تھا۔ ادائیگی کی تاریخ سے 05 دن پہلے جمی نے بل کو بینک میں جمع ہونے بھیج دیا۔ بینک نے بل کو جان کے پاس ادائیگی کے لیے پیش کیا جس نے رقم ادا کر دی۔ بینک نے اس کی اطلاع جمی کو دے دی۔

جان کا کھانہ جمی کی کتابوں میں اور جمی کا کھانہ جان کی کتابوں میں بنائیں۔

- 15 جنوری 2006 کو کرتار نے 30,000 روپے کا مال بھگوان کو فروخت کیا اور اس پر 10,000 روپے کے تین بل لکھے جو علی الترتیب ایک ماہ، دو ماہ اور تین ماہ کی مدت کے لیے قابل ادا تھے۔ پہلا بل کرتار نے ادائیگی کی تاریخ تک اپنے پاس رکھا۔ دوسرا بل کا بیچان کرتار نے اپنی لین دار تنا کے حق میں کر دیا۔ تیسرا بل کرتار نے فوراً 6% سالانہ کی درسے بینک سے بھندا یا۔ ادائیگی کی تاریخ پر بھگوان نے تینوں بلوں کی ادائیگی کر دی۔ کرتار اور بھگوان کی کتابوں میں جزئی اندراجات کریں اور کھاتے ہائیں۔

- 01 جنوری 2006 کوارون نے سینیل کو 30,000 روپے کا مال بیچا۔ سینیل نے 50% رقم کی ادائیگی فوراً کر دی جس پر ارون نے 2% نذر رعایت (Discount) دی۔ بقايا رقم کے لیے سینیل نے ارون کے حق میں 20 دن کی مدت کا ایک اقراری نوت لکھا۔ ادائیگی کی تاریخ پر چونکہ عام چھٹی تھی اس لیے ارون نے بل کو تحویل پذیر دستاویزی

قانون کے تحت پیش کیا جس کی ادائیگی سینیل نے کر دی۔ بتائیے، ارون نے کس تاریخ پر اقراری نوٹ پیش کیا اور مندرجہ بالائیں دین کوارون اور سینیل کی کتابوں میں درج کریں۔

7۔ 8.1.2006 کو درشن نے ورون کو 40,000 روپے کا مال بیچا اور ورون پر ایک بل دو ماہ کی مدت کا لکھا۔ ورون نے بل منظور کر کے درشن کو واپس کر دیا۔ ادائیگی کی تاریخ پر ورون نے بل کی ادائیگی کر دی۔ مندرجہ ذیل صورت میں درشن اور ورون کی کتابوں میں ضروری جزئی اندراجات کریں۔

- جب درشن نے بل کو ادائیگی کی تاریخ تک اپنے پاس رکھا۔

- جب درشن بل کو فوراً 6% سالانہ کی درست بینک سے بھنا لیتا ہے۔

- جب درشن فوراً بل کا بیچان اپنے لین دار سریش کے حق میں کر دیتا ہے۔

- جب درشن بل کو ادائیگی کی تاریخ سے تین دن پہلے بینک میں جمع ہونے دیتا ہے۔

8۔ بنسل ٹریڈرس اپنے یہاں سے مال کی خریداری پر قیمت نہرست کی 10% تجارتی چھوٹ یا رعایت (Discount) دیتی ہے۔ موہن ٹریڈرس جو ایک خود دہ فروش ہے، نے بنسل ٹریڈرس سے مندرجہ ذیل رقم کی خریداری کی۔

تاریخ	رقم
	روپے

1,000	21 دسمبر 2005
1,200	26 دسمبر 2005
2,000	28 دسمبر 2005
5,000	31 دسمبر 2005

مندرجہ بالائی خریداروں کے لیے موہن ٹریڈرس نے بنسل ٹریڈرس کے حق میں 30 دن کی مدت کے اقراری نوٹ لکھے۔ 21 دسمبر 2005 کو ہوئی بکری کے عوض ملے اقراری نوٹ کو بنسل ٹریڈرس نے ادائیگی کی تاریخ تک اپنے پاس رکھا۔ 26.12.2005 کو لکھا گیا اقراری نوٹ بنسل ٹریڈرس نے 12% سالانہ کی درست بینک سے بھنا لیا۔ 28 دسمبر 2005 کو لکھے گئے اقراری نوٹ کا بیچان اپنے لین دار ڈریم سوپ کے حق میں 1,900 روپے کی خریداری کے بعد کمکمل تصفیہ حساب کے طور پر کر دیا۔ 31 دسمبر 2005 کو لکھے گئے اقراری نوٹ کو بنسل ٹریڈرس نے 20.01.2006 کو بینک میں جمع ہونے بھیج دیا۔ موہن ٹریڈرس نے سبھی اقراری نوٹوں کی ادائیگی مقرر رہ وقت پر کر دی۔ مندرجہ بالائیں دین سے متعلق ضروری جزئی اندراجات بنسل ٹریڈرس اور موہن ٹریڈرس کی کتابوں میں کریں اور موہن ٹریڈرس کا کھاتہ بنسل ٹریڈرس کی کتابوں میں اور بنسل ٹریڈرس اور موہن ٹریڈرس کی کتابوں میں بھائیں۔

9- 01 فروری 2006 کو نارائن نے رویندرن سے 25,000 روپے کا مال خریدا۔ رویندرن نے اس قم کا ایک بل 30 دن کی مدت کا نارائن پر لکھا۔ اداًیگی کی تاریخ پر نارائن نے اپنی مظہوری کو مسترد کر دیا۔ مندرجہ ذیل صورت میں رویندرن اور نارائن کی کتابوں میں ضروری جزئی اندر اجات کریں۔

- جب رویندرن بل کو اداًیگی کی تاریخ تک اپنے پاس رکھتا ہے۔
- جب رویندرن بل کو فوراً 6% سالانہ کی درکی بینک سے بھنا لیتا ہے۔
- جب رویندرن بل کا بیچان اپنے لین دار گنیش کو کرتا ہے۔
- جب رویندرن بل کو اداًیگی کی تاریخ سے کچھ دن پہلے بینک میں جمع ہونے کے لیے بھیج دیتا ہے۔

10- 13 فروری 2006 کو روی نے سُدِرشن کو 40,000 روپے کا مال بیجا۔ روی نے سُدِرشن پر چار بل لکھے۔ پہلا بل 5,000 روپے کا ایک ماہ کی مدت کا، دوسرا بل 10,000 روپے کا 40 دن کی مدت کا، تیسرا بل 12,000 روپے کا تین ماہ کی مدت کا اور چوتھا بل بقایا قم کا 19 دن کی مدت کا۔ سُدِرشن نے بل مظہور کر کے روی کو واپس کر دیے، روی نے پہلا بل اپنے بینک سے 6% سالانہ کی در سے بھنا لیا۔ اس نے دوسرے بل کا بیچان اپنے لین دار مشتاق کے حق میں 10,200 روپے کے قرضے کی مکمل اداًیگی میں کر دیا۔ تیسرا بل روی نے اداًیگی کی تاریخ تک اپنے پاس رکھا۔ روی نے چوتھا بل اداًیگی کی تاریخ سے پانچ دن پہلے بینک میں جمع ہونے بھیج دیا۔ اداًیگی کی تاریخ پر سُدِرشن نے روی کو 12% سالانہ کی شرح سود کے ساتھ چاروں بلوں کی نقد اداًیگی کر دی۔ روی، سُدِرشن، مشتاق اور بینک کی کتابوں میں مندرجہ بالا لین دین کے ضروری جزئی اندر اج کریں۔ اس کے ساتھ روی کی کتابوں میں سُدِرشن اور مشتاق کا کھاتہ بھی بنائیے۔

11- 01 جنوری 2006 کو نیبا نے مسکان کو 20,000 روپے کا مال فروخت کیا اور اس پر ایک بل دو ماہ کی مدت کا لکھ دیا۔ اداًیگی کی تاریخ سے ایک ماہ پہلے مسکان نے 12% سالانہ کی چھوٹ (Rebate) سے بل کی قفل از وقت اداًیگی کی نیبا سے درخواست کی۔ نیبا نے مسکان کی درخواست مانتے ہوئے بل کی قفل از وقت اداًیگی قبول کر لی۔ نیبا اور مسکان کی کتابوں میں جزئی اندر اجات کریں۔

12- 15 جنوری 2006 کو رگھونے 35,000 روپے کی مالیت کا سامان دیویندر کو فروخت کیا اور اس پر تین بل بنائے۔ پہلا بل 5,000 روپے کا ایک ماہ کی مدت کے لیے، دوسرا بل 20,000 روپے کا تین ماہ کی مدت کا اور تیسرا بل بقایا قم کا چار ماہ کی مدت کا۔ رگھونے پہلے بل کا بیچان اپنے لین دار دیوان کے حق میں 5,200 روپے کے قرضے کی مکمل اداًیگی کے بدے میں کر دیا۔ دوسرا بل رگھونے 6% سالانہ کی در سے بھنا لیا اور تیسرا بل رگھونے اداًیگی کی تاریخ تک اپنے پاس رکھا۔ اداًیگی کی تاریخ پر دیویندر نے بل مسترد کر دیا اور بینک نے ناظری اخراجات کے 30 روپے ادا کیے۔ اداًیگی کی تاریخ سے چار دن پہلے رگھونے تیسرا بل بینک میں جمع ہونے بھیج دیا۔ تیسرا بل بھی دیویندر نے مسترد کر دیا اور بینک نے ناظری اخراجات کے 200 روپے ادا کیے۔ بلوں کے استرداد

(Dishonour) کے پانچ دن بعد دیوبند نے پوری قابل ادا رقم 1,000 روپے کے سود کے ساتھ رگھو کو ادا کر دی۔ اس مقصد کے لیے دیوبند نے اپنے بینک سے قابل مدتی قرض (Loan) حاصل کیا۔ رگھو، دیوبند اور دیوان کی کتابوں میں ضروری جزئی اندراج کریں۔ ان کے ساتھ دیوبند کا کھاتہ رگھو کی کتابوں میں اور رگھو کا کھاتہ دیوبند کی کتابوں میں بنائیں۔

- 13- ہمل نے 15 جنوری 2006 کو 5,000 روپے کا مال کمل سے خریدا اور کمل کے ذریعے دو ماہ کی مدت کا لکھا گیا ایک بل منظور کر لیا۔ ادا بینگی کی تاریخ پر بل پیش کیا گیا اور ہمل نے بل مسترد کر دیا۔ ہمل اور کمل کی کتابوں میں ضروری جزئی اندراجات کریں جب کہ
- کمل نے بل کو ادا بینگی کی تاریخ تک اپنے پاس رکھا۔
 - کمل نے فوراً بل کو 6% سالانہ کی درست بینک سے بخنا لیا۔
 - کمل نے بل کا بیچان اپنے لیں وار شمسٹر دے کے حق میں کر دیا۔
 - ادا بینگی کی تاریخ سے پانچ دن پہلے کمل نے بل کو بینک میں جمع ہونے بھیج دیا۔

14- 17 جنوری 2006 کو عبداللہ نے طاہر کو 18,000 روپے کا مال فروخت کیا۔ اس نے طاہر پر اس رقم کا ایک بل 45 دن کی مدت کے لیے لکھا۔ اسی تاریخ پر طاہر نے بل منظور کر کے عبداللہ کو واپس کر دیا۔ ادا بینگی کی تاریخ پر عبداللہ نے بل پیش کیا اور طاہر نے اسے مسترد کر دیا۔ عبداللہ نے 40 روپے کے ناظری اخراجات ادا کیے۔ بل کے استرداد (Dishonour) کے پانچ دن بعد طاہر نے اپنی منظوری کے طور پر اپنے قرضے کی ادا بینگی سود اور ناظری اخراجات سمیت 18,700 روپے کر دی۔

عبداللہ اور طاہر کی کتابوں میں ضروری جزئی اندراجات کریں۔ ساتھ ہی طاہر کا کھاتہ عبداللہ کی کتابوں میں اور عبداللہ کا کھاتہ طاہر کی کتابوں میں بنائیں۔

15- 02 مارچ 2006 کو آشانے نشا کو 19,000 روپے کا مال بیچا۔ 4,000 روپے نشانے فوراً ادا کر دیے اور بقایا رقم کا ایک بل آشانے کا لکھا ہوا تین ماہ کی مدت کا منظور کر لیا۔ آشانے بل کو فوراً بینک سے بخنا لیا۔ ادا بینگی کی تاریخ پر نشانے بل مسترد کر دیا اور بینک نے 30 روپے ناظری اخراجات کے ادا کیے۔

16- 02 فروری 2006 کو ومانے شرما سے 17,500 روپے کا مال خریدا۔ ورمانے 2,500 روپے فوراً ادا کر دیے اور بقایا رقم کا ایک اقراری نوٹ 60 دن کی مدت کا شرما کو دے دیا۔ شرما نے وہ اقراری نوٹ فوراً اپنے لین دار گپتا کو 15,400 روپے کے قرضے کے مکمل ادا بینگی کے طور پر بیچان کر دیا۔ ادا بینگی کی تاریخ پر گپتا نے بل کے جسے ورمانے نے مسترد کر دیا اور گپتا نے 500 روپے ناظری اخراجات کے ادا کیے۔ اسی تاریخ پر گپتا نے بل کے استرداد کی اطلاع شرما کو دی شرما نے گپتا کے قرضے کی ادا بینگی 15,500 روپے کے چیک کے ذریعے کر دی جس میں ناظری اخراجات اور سود شامل تھا۔ ورمانے شرما کے قرضے کی اسی رقم کی ادا بینگی چیک سے کر دی۔

شما، گپتا اور ورما کی کتابوں میں مندرجہ بالا لین دین کے ضروری جزئی اندر اجات کریں اور ساتھ میں ورما اور گپتا کا کھانہ شرما کی کتابوں میں بنائیں، شرما کا کھانہ ورما کی کتابوں میں اور شرما کا کھانہ گپتا کی کتابوں میں بنائیں۔

1.3.2006-17 کو لی نے میتھو کو 12,000 روپے کا مال بیچا اور اس رقم کا ایک بل دو ماہ کی مدت کا میتھو پر لکھا۔ لی نے فوراً بل کو 90% سالانہ کی درسے اپنے بینک سے بھٹا لیا۔ ادا یگی کی تاریخ پر غیر کاروباری دن (چھٹی) تھا۔ اس لیے لی نے بل کو ہندوستانی تحویل پذیر دستاویز قانون 1881 کیوضاحت کے تحت پیش کیا۔ میتھو نے بل مسترد کر دیا اور لی نے 45 روپے کے ناظری اخراجات ادا کیے۔ میتھو نے بل کے مسترد کے پانچ دن بعد لی کے قرضے کی ادا یگی چیک کے ذریعے کر دی جس میں 12% سالانہ درکار سود بھی بل کی مدت کے مطابق شامل تھا۔ لی اور میتھو کی کتابوں میں مندرجہ بالا اندر اجات درج کریں۔ لی کی کتابوں میں میتھو کا کھانہ تیار کریں اور میتھو کی کتابوں میں لی کا کھانہ تیار کریں۔

1.2.2006-18 کو کپل نے 21,000 روپے کا مال گرو سے خریدا اور اس رقم کا ایک بل گورو کا لکھا ہوا منظور کر لیا۔ بل ایک ماہ کے بعد قابل ادا تھا۔ 25.02.2006 کو گورو نے بل بینک میں جمع ہونے بھیج دیا۔ ادا یگی کی تاریخ پر بینک نے بل کو پیش کیا۔ کپل نے بل مسترد کر دیا اور بینک نے 100 روپے ناظری اخراجات کے ادا کر دیے۔ مندرجہ بالا لین دین کے جزئی اندر اجات کپل اور گرو کی کتابوں میں کریں۔

14-19 فروری 2006 کو رشی نے الکا کو 500 روپے کا مال فروخت کیا۔ الکا نے 500 روپے نقد ادا کیے اور بقایا رقم کا ایک بل رشی کے ذریعے دو ماہ کی مدت کا لکھا گیا منظور کر لیا۔ 10 اپریل 2006 کو پیسوں کی کی وجہ سے الکا رشی کے پاس پہنچی اور بل کو منسون کرنے کی درخواست کی۔ اس کے ساتھ اس نے رشی کو 2,000 روپے نقد لینے اور بقایا رقم کا ایک نیا بل 500 روپے کے سود کے ساتھ لکھنے کی درخواست کی۔ رشی نے الکا کی درخواست مانتے ہوئے اس پر ایک نیا بل بقایا رقم کا دو ماہ کی مدت کے لیے لکھا دیا۔ نیا بل الکا نے منظور کر لیا۔ ادا یگی کی تاریخ پر الکا نے اس نے بل کی ادا یگی کر دی۔ رشی اور الکا کی کتابوں میں ضروری جزئی اندر اجات کریں اور الکا کا کھانہ رشی کی کتابوں میں اور رشی کا کھانہ الکا کی کتابوں میں بنائیں۔

20-01 دسمبر 2005 کو نکھل نے 23,000 روپے کا مال اکھل کو بیچا۔ اس نے ایک بل آف ایچنچ 2 ماہ کی مدت کا اکھل پر لکھا جسے اکھل نے منظور کر کے نکھل کو واپس کر دیا۔ نکھل نے بل کو 12% سالانہ کی درسے فوراً اپنے بینک سے بھٹا لیا۔ ادا یگی کی تاریخ پر اکھل نے بل مسترد کر دیا اور ناظری اخراجات کے 100 روپے بینک نے ادا کیے۔ اکھل نے نکھل سے نیا بل 10% سالانہ شرح سود کے ساتھ اس پر لکھنے کی درخواست کی جسے نکھل نے منظور کر لیا۔ نیا بل دو ماہ کی مدت پر قابل ادا تھا۔ دوسرے بل کی ادا یگی کی تاریخ سے ایک ہفتہ پہلے اکھل نے دوسرے بل کو منسون کرنے کی درخواست کی۔ اس نے 10,000 روپے فوراً نقد ادا کیے اور ایک تیرا میل 500 روپے کے سود کے ساتھ لکھنے کی درخواست کی نکھل نے اکھل کی درخواست مان لی۔ تیسرا بل کی مدت ایک ماہ

تھی۔ اکھل نے تیرے بل کو ادا یگی کی تاریخ پر ادا کر دیا۔ نکھل اور اکھل کی کتابوں میں ضروری جزئی اندراجات کریں ساتھ ہی اکھل کا کھاتہ نکھل کی کتابوں میں اور نکھل کا کھاتہ اکھل کی کتابوں میں بنائیں۔

21-01 جنوری 2006 کو وہاں نے 18,000 روپے کا مال سدھا کو فروخت کیا اور ایک بل اس رقم کا دو ماہ کی مدت کا سدھا پر لکھ دیا۔ سدھا نے وہا کے ڈرافٹ کو منظور کیا اور منظوری کے بعد وہا کو واپس کر دیا۔ وہا نے فوراً اس بل کا یچان اپنی لین دار گیتا کے حق میں کر دیا۔ پیسہ کی کمی کی وجہ سے ادا یگی کی تاریخ سے پانچ دن پہلے سدھا نے وہا سے بل منسوخ کرنے کی درخواست کی۔ اس کے ساتھ اس نے ایک نیا بل 200 روپے کے سود کے ساتھ اُس پر لکھنے کی درخواست کی جسے وہا نے مان لیا۔ وہا نے وہ بل گیتا سے لے کر اس کی ادا یگی گیتا کو نقد کر دی اور بل منسوخ کر دیا۔ اس کے بعد سدھا کے کہنے کے مطابق اس نے اس پر ایک نیا بل لکھ دیا۔ نیا بل ایک ماہ بعد قابل ادا یگی ہونا تھا۔ ادا یگی کی تاریخ پر سدھا نے بل کی رقم ادا کر دی۔ وہا کی کتابوں میں ضروری جزئی اندراجات کریں۔

22-01.2006 کو گوم کے لین داروں اور دین داروں کی حالت مندرجہ ذیل تھی:

لین دار	دین دار
روپے	روپے
—	5,000 بابو
—	8,000 چندر کلا
—	13,500 کرن
—	14,000 انتا
5,000	— انجو
12,000	— شیبا
6,000	— منجو

جنوری ماہ 2006 میں مندرجہ ذیل لین دین کیے گئے:

02 جنوری

4,800 روپے کی مکمل ادا یگی کے لیے بابو پر دو ماہ کی مدت کے لیے ایک بل لکھا گیا۔ بابو نے بل منظور کر کے 5.1.2006 کو واپس کر دیا۔

04 جنوری

بابو کے بل کو 4,750 روپے میں بھنا لیا گیا۔

08 جنوری

چندر کلا نے تین ماہ کی مدت کے لیے 8,000 روپے کا ایک اقراری نوٹ (Promissory Note) بھیجا۔

10 جنوری

چندر کلا سے موصول اقراری نوٹ کو 79,000 روپے میں بھٹنا لیا۔

12 جنوری

شیبا کا ڈرافٹ دو ماہ کی مدت کے لیے منظور کیا۔

22 جنوری

انیتا نے دو ماہ کی قابل ادا تاریخ کا ایک اقراری نوٹ بھیجا۔

23 جنوری

انیتا کے اقراری نوٹ کا بیچان منجو کے حق میں کر دیا۔

25 جنوری

انجو کا ڈرافٹ تین ماہ کی قابل ادامت کے لیے منظور کیا۔

29 جنوری

کرن نے 2,000 روپے نقد ادا کیے اور بقايرم کا ایک اقراری نوٹ تین ماہ کی مدت کا بھیجا۔

مندرجہ بالا لین دین کو متعلقہ معاون کتابوں میں درج کرو۔

23 جنوری 2006 کو ہرش نے ایک بل 10,000 روپے کا تنو کے ذریعے لکھا گیا اور موخر الذکر کی امداد کے لیے منظور کر لیا۔ تنو نے یہ بل اُسی دن 8% سالانہ درسے بھٹنا لیا۔ ادا یگی کی تاریخ پر تنو نے ایک چیک ہرش کو بھیج دیا تاکہ ہرش ادا یگی کر سکے۔ ہرش نے اپنی منظوری کی ادا یگی کر دی۔
تو اور ہرش کی کتابوں میں جزئی اندراجات کریں۔

24۔ ریتیش اور نینا کو عارضی طور پر پیسے کی ضرورت تھی۔ 01 اگست 2005 کو ریتیش نے نینا پر ایک بل 12,000 روپے کا 4 ماہ کی مدت کا لکھا۔ نینا نے بل منظور کر کے ریتیش کو واپس کر دیا۔ ریتیش نے بل کو 8% سالانہ درسے بھٹنا لیا اور بھٹنا نے گئے بل کی آدھی رقم نینا کو بھیج دی۔ ادا یگی کی تاریخ پر ریتیش نے ضروری رقم نینا کو بھیج دی اور نینا نے بل کی ادا یگی کر دی۔ فریقین کی کتابوں میں اس لین دین کا جزئی اندراج کریں۔

25 جنوری 2006 کو بھانو اور نمن نے ایک دوسرے پر 8,000 روپے کا بل تین ماہ کی مدت کا آپسی مفاد کے لیے لکھا۔ 02 جنوری کو انہوں نے اپنے بل کو اپنے اپنے بیٹوں سے 5% سالانہ درسے بھٹنا لیا۔ ادا یگی کی تاریخ پر دونوں کو ایک دوسرے کی منظوری مل گئی بھانو اور نمن کی کتابوں میں جزئی اندراج کریں۔

26 نومبر 2005 کو آپسی امداد کی غرض سے سونیا نے ایک بل 15,000 روپے کا تین ماہ کی مدت کا سنی پر لکھا۔ سونیا نے بل منظور کر کے سونیا کو واپس کر دیا۔ سونیا نے اسے اپنے بیٹک سے 6% سالانہ درسے بھٹنا لیا۔ حاصل شدہ رقم کو سونیا اور سونیا نے بالترتیب 3/2 اور 3/1 کے نسبت سے بانٹ لیا۔ ادا یگی کی تاریخ پر سونیا نے اپنے حصے کی

رقم سمنی کو بحیثیت دی لیکن وہ بل کی ادائیگی کرنے میں ناکام رہا اور آخر کار سونیا کو ادائیگی کرنی پڑی۔ سمنی نے اس رقم کی 100 روپے کے سود کے ساتھ ایک نئی منظوری سونیا کو دے دی۔ سمنی نے اپنی دوسری منظوری کو قابل ادائیگی تاریخ پر ادا کر دیا۔ سونیا اور سمنی کی کتابوں میں ضروری جزئیں اندر راجات کریں۔

اپنی فہم کی جانچ کریں۔ جوابات

اپنی فہم کی جانچ کریں - I

- | | | | | | | |
|------|-------|-----|------|-----|------|-------|
| صحیح | (v) | غلط | (iv) | غلط | صحیح | (i) |
| صحیح | (iii) | غلط | (ii) | غلط | صحیح | (vi) |
| غلط | (x) | غلط | (ix) | غلط | غلط | (vii) |

اپنی فہم کی جانچ کریں - II

- | | | | | | | |
|-----|----------------|------|------|-------|-------------|------|
| (i) | وعدہ کرنے والا | (ii) | وعدہ | (iii) | بیچان کننده | (iv) |
|-----|----------------|------|------|-------|-------------|------|

اپنی فہم کی جانچ کریں - III

- | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------|-----------------|--------|------------------|------------|------|-----|----|
| (i) | تحویل پذیر | (ii) | مرتب، مرتب الیہ | (iii) | دین دار، لین دار | (iv) | تمین | (v) | دو |
| (vi) | مرتب الیہ | (vii) | ہندی | (viii) | مکمل مدت | (Maturity) | | | |

تصحیح نامہ

(صفحہ 40 کے متن کا بقیہ مواد)

بین الاقوامی مالی رپورٹگ معیار (IFRSs)

بین الاقوامی مالی رپورٹگ معیار کھاتہ داری معیار کا وہ سیٹ ہے جنہیں انٹرنشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ (آئی اے ایس بی) نے وضع کیا ہے۔ IFRS کھاتہ داری معیاروں کا یک سیٹ ہے جو مالی گوشواروں کو تیار کرتے وقت مختلف قسم کے تجارتی لیں دین اور واقعات کی رپورٹگ میں یکسانیت کو یقینی بناتا ہے۔ اس کا مقصد تجارتی اداروں کے درمیان صحیح اور مناسب (True and Fair) اندازہ لگانا ہے تاکہ بین الاقوامی تقابل ممکن ہو سکے۔

کھاتہ داری کی نمایاں خصوصیتیں مالی اسٹینٹنس کی تیاری اور استعمال کو آسان بناتی ہیں۔ جس کے نتیجے میں کھاتہ داری کی معلومات کے استعمال کنندہ آسانی سے مالی فیصلہ لینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔

کمپنیوں کے مالی اسٹینٹنس کی تیاری میں ممکنہ فرق کو کم کرنے کے لیے وزارت برائے کارپوریٹ معاملات حکومت ہند کے ذریعہ ہندوستانی کھاتہ داری معیاروں کا میلان (Convergence) IFRSs کے ساتھ کیا تاکہ کھاتہ داری کے میدان میں یکسانیت، تقابل، شفافیت، معقولیت، اور مطابقت لائی جاسکے۔ اس کے نتیجے میں کمپنی ایکٹ 1956 میں ترمیم کر کے ترمیم شدہ فہرست VI کو نافذ کیا گیا۔

میلانات کے فوائد IFRSs

- 1۔ عالمی یا بین الاقوامی سرمایہ بازار میں آسانی سے رسائی
- 2۔ آسان تقابل اور شفافیت
- 3۔ صحیح اور مناسب انداز قدر
- 4۔ زیادہ اعتماد اور یقین
- 5۔ متعدد رپورٹ سے نجات

حالانکہ ICAI کے ذریعہ یہ واضح کیا گیا ہے کہ IFRSs کے میلانات سے یہ مطلب نہیں ہے کہ IFRS کو پوری طرح سے اپنایا گیا ہے۔ جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے کہ IAS-IAS کی پیش کش سے متعلق ہے، میں کہا گیا ہے کہ مالی گوشوارہ تک تک IFRS کے مساوی نہیں مانا جائے گا جب تک کہ مالی گوشواروں کو IFRSs کے تقاضوں کے تحت نہیں تشکیل کیا جاتا۔

ہندوستان میں IFRSs کے نفاذ کے لیے ٹائم شیڈول

1۔ بیمہ، بینکنگ اور NBFCs کے مساوا کمپنیوں کے لیے

مرحلہ	فیر (Applicable to)	اطلاق کی تاریخ
I	<ul style="list-style-type: none"> کمپنیاں جو 50 NSE-Nifty کا حصہ ہیں کمپنیاں جو 30 BSE-Sensex کا حصہ ہیں کمپنیاں جن کے شیئر ہندوستان سے باہر شیئر بازاروں میں شامل ہیں کمپنیاں خواہ، فہرست میں شامل ہوں یا نہیں جن کی کل آمدی 1,000 کروڑ سے زائد ہے۔ 	1، اپریل 2011
II	<ul style="list-style-type: none"> کمپنیاں، خواہ فہرست میں شامل ہوں یا نہیں، جن کی کل آمدی (قیمت) 500 کروڑ سے زائد ہے لیکن 1000 کروڑ سے کم ہے۔ 	1، اپریل 2013
III	<ul style="list-style-type: none"> فہرست میں شامل کمپنیاں جن کی کل آمدی 500 کروڑ یا اسے کم ہے 	1، اپریل 2014
بیمہ کمپنیاں، بینکنگ کمپنیاں اور NBFCs		
	بیمہ کمپنیاں	1، اپریل 2012
	بینکنگ کمپنیاں	
	<ul style="list-style-type: none"> تمام فہرست میں شامل کمرشیل بینک اور شہری معاون بینک جن کی کل آمدی 300 کروڑ سے زائد ہے۔ 	1، اپریل 2013
	<ul style="list-style-type: none"> شہری معاون بینک جن کی کل آمدی 200 کروڑ سے زائد لیکن 300 کروڑ سے کم ہے۔ 	1، اپریل 2014
غیر بینکی مالی کمپنیاں (NBFCs)		
	<ul style="list-style-type: none"> کمپنیاں جو 50 NSE Nifty کا حصہ ہیں 	1، اپریل 2013
	<ul style="list-style-type: none"> کمپنیاں جو 30 BSE-Sensex کا حصہ ہیں 	1، اپریل 2013
	<ul style="list-style-type: none"> کمپنیاں خواہ فہرست میں شامل ہوں یا نہ ہوں جن کی خالص مالیت 1000 کروڑ سے زائد ہے 	1، اپریل 2014
	<ul style="list-style-type: none"> کمپنیاں کی تمام فہرست میں شامل اور NBFCs غیر لسٹ کو مندرجہ بالا کسی بھی زمرے میں نہیں آتی ہیں اور جن کی خالص مالیت 500 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ 	

جس کا موجودہ صورت حال میں اطلاق ہوتا ہے۔
وزارت برائے کارپوریٹ معاملات کے ذریعہ IAS/IFRSs کی متعلقہ نوٹیفیکیشنز/فہرست

IAS No.	عنوان	متعلقہ میلان شدہ Ind AS
IAS 1	مالی گوشواروں کی پیش کش	Ind AS 1
IAS 2	فہرست	Ind AS 2
IAS 7	نقدروال گوشوارہ/نقد بہاؤ، گوشوارہ	Ind AS 7
IAS 8	اکاؤنٹنگ کی پالیسیاں، اکاؤنٹنگ تجھیے اور غلطیوں میں تبدیلی	Ind AS 8
IAS 10	بینس شیٹ کی تاریخ کے بعد واقعات	Ind AS 10
IAS 11	تعمیری معابدے	Ind AS 11
IAS 12	انکم ٹیکس	Ind AS 12
IAS 16	ملکیت، پلانٹ اور آلات	Ind AS 16
IAS 17	ادھار پٹھ	Ind AS 17
IAS 18	محصول	Ind AS 18
IAS 19	ملازمین کے فوائد	Ind AS 19
IAS 20	سرکاری امداد اور سرکاری امداد کے انکشاف کے لیے کھاتہ داری	Ind AS 20
IAS 21	زر مبادلہ دامون میں تبدیلیوں کے اثرات	Ind AS 21
IAS 23	قرض لینے کی لاگتیں	Ind AS 23
IAS 24	متعلقہ فریق انکشاف	Ind AS 24
IAS 26	ریٹائرمنٹ فوائد پلان کے ذریعہ کھاتہ داری اور رپورٹنگ	Ind AS 26
IAS 27	مجموع اور مختلف مالی گوشوارے	Ind AS 27
IAS 28	معاون انجمنوں میں سرمایہ کاری	Ind AS 28
IAS 29	افراطی معیشت کی مالی رپورٹنگ	Ind AS 29
IAS 31	مشترکہ کاروبار میں مفاد	Ind AS 31
IAS 32	مالی وستاویزات کی پیش کش	Ind AS 32

IAS 33	فی حصہ کمالی	Ind AS 33
IAS 34	عبوری مالی رپورٹنگ	Ind AS 34
IAS 35	اٹاٹوں کی کمزوری یا نقصان	Ind AS 35
IAS 36	بندوبست، ہنگامی واجبات اور ہنگامی اٹاٹے	Ind AS 36
IAS 37	غیر مادی یا غیر محسوس اٹاٹے	Ind AS 37
IAS 38	مالی دستاویزات: شناخت اور پیمائش	Ind AS 38
IAS 39	ملکیت میں سرمایہ کاری	Ind AS 39
IAS 40	زراعت	Ind AS 40